

# اسلام اور ہمدردی

(ایک تقابلی مطالعہ)

مصنف: ڈاکٹر زاگر عبدالکریم نانگ  
ترجمہ: محمد زاہد ناگ





# اسلام اور ہندو مت

(ایک تقابلی مطالعہ)

اسلام  
اور  
ہندو مت

(ایک تھاہی مطالعہ)

ڈاکٹر ذکر عبید الکریم نائک  
مصنف

محمد زاہد ملک  
ترجمہ

زبیر پبلیشورز اردو بازار لاہور

## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

اسلام اور ہندو مت	.....	نام کتاب
محمد زاہد ملک	.....	ترجمہ
زبیر نسیر	.....	ناشر
رفاقت علی	.....	کپوزنگ
اسدنڈ یونیٹریز، لاہور	.....	مطبع
<b>120 روپے</b>	.....	قیمت

ملنے کا پتہ:

**مشتاق بک کارنر اردو بازار لاہور**

## فہرست

### حصہ اول

- ۱۔ اسلام اور ہندو مت کا تقابلی مطالعہ  
ہندوؤں کو اسلام کی دعوت
- ۲۔ وہ سوالات جو ہندو اکثر اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں

### حصہ دوم

انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز  
ایک مناظرہ

(محضہ اول)

## اسلام اور ہندو مت کا تقابلی مطالعہ ہندوؤں کو اسلام کی دعوت

تعارف

• ہندو مت کا تعارف

(i) ہندو کی تعریف

لفظ ہندو جغرافیائی پس منظر کا حائل ہے اور بنیادی طور پر یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو دریائے سندھو کی وادی میں آباد تھے یا وہ علاقہ جو دریائے سندھ کے پانی سے سیراب ہوتا تھا۔

کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ:

”لفظ ”ہندو“ پہلی مرتبہ اپریانیوں نے استعمال کیا تھا جو کہ ہمایہ کے شمال مغربی دروں سے گزرتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ لفظ ”ہندو“ کا ذکر ہندوستانی ادب میں کہیں بھی نہیں ملتا اور نہ ہی اس کا ذکر ہندوؤں کی مقدس کتب میں ملتا ہے..... ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل اہل ہند اس لفظ سے نا آشنا تھے..... مذہبی اور اخلاقی انسائیکلو پیڈیا کے مطابق..... ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل اہل ہند اس لفظ سے

واقف نہ تھے..... جواہر لعل نہرو اپنی کتاب ”ہندوستان کی دریافت“..... صفحہ نمبر 74 اور 75 پر رقم طراز ہے کہ لفظ ”ہندو“ کا پہلا قدیم حوالہ یہ تھا کہ ”لوگ“ نہ کہ کسی خاص مذہب کے پیروکار..... کسی خاص مذہب کے پیروکاروں کے لیے لفظ ”ہندو“ کا استعمال بہت بعد میں منظر عام پر آیا تھا۔“

### (ii) ہندومت کی تعریف

\* ہندومت لفظ ہندو سے بنا ہے..... ہندومت وہ نام تھا جو 19 ویں صدی میں انگریزوں نے انگریزی زبان میں رائج کیا تھا کیونکہ سرزی میں سندھ پر مذاہب اور عقائد بکثرت پائے جاتے تھے۔

نیو انسلیکلوبیڈیا بریٹائز کا 20:581 کے مطابق..... 1830ء میں برطانوی مصنفوں نے ہندوستان کے تمام تر عقائد کے حامل لوگوں کو ہندو کا نام دیا تھا..... ان لوگوں میں مسلمان اور وہ لوگ شامل نہ تھے جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا۔

\* اصطلاح ہندومت ایک گمراہ کن اصطلاح ہے۔ اگرچہ یہ اعتقادات اور افکار کے ایک متحده نظام کا اظہار کرتی ہے لیکن معاملہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے کیونکہ ہندومت ایک ایسا وسیع اور عجیب و غریب مذہب ہے کہ مذاہب کی معمول کی تعریفات اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں..... اس مذہب کا مأخذ بھی نامعلوم ہے..... اس مذہب میں کوئی پیغمبر بھی مبعوث نہیں ہوا ہندومت میں تو نہیں وضع کرنے کا کوئی نظام بھی موجود نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو ہندو کہلاتا ہے وہ ایک حقیقی ہندو تصور کیا جاتا ہے قطع نظر اس امر کے کہ وہ کس کی پوجا کرتا ہے اور اس کے عقائد اور عمل کیا ہے۔

ہندو مفکرین کے مطابق ہندومت کی اصطلاح..... اصطلاح کا غلط استعمال ہے اور اس مذہب کو ہندومت کی بجائے ”ساتن دھرم“ کہنا چاہیے جس کے معانی ہیں کہ ”دوامی مذہب“ یا ”ویدک دھرم“..... جس کے معانی ہیں کہ ”ویدا کا مذہب“..... سوامی ودیکاندرا کے مطابق..... اس مذہب کے پیروکاروں کو ”ویدانٹ“ کہنا چاہیے۔

### • اسلام کا تعارف (i) اسلام کی تعریف

اسلام ایک عربی کا لفظ ہے جو لفظ ”سلام“ سے بنا ہے جس کا مطلب ہے ”سلامتی“..... اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا..... تابعداری کرنا..... مختصر یہ کہ اسلام کا مطلب ہے ”سلامتی“..... اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے ..... اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہوئے ”سلامتی“ حاصل کرنا۔

### (ii) مسلمان کی تعریف

مسلمان وہ فرد ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے ..... اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے ..... اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔

### (iii) اسلام کے بارے میں غلط فہمی

بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اسلام ایک نیادین ہے ..... ایک نیامہب ہے ..... جو کہ 1400 برس پہلے منظر عام پر آیا تھا اور پھر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مذہب کے بنی ہیں۔ حالانکہ اسلام بہت قدیم مذہب ہے ..... یہ مذہب اس وقت سے رائج ہے جس وقت

پہلے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا۔ پنجابر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کے بانی نہیں ہیں بلکہ وہ اسلام کے آخری نبی ہیں..... نبی آخر الزماں ہیں۔

### اسلام اور ہندو مت کے ستون

ہندو مت میں ہندو مت کے ستون بیان نہیں کیے گئے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہندو مت میں سلسلہ بند اعتماد نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے کوئی ستون یا اصول ہیں جن پر اس مذہب کے پیروکاروں کے لیے عمل درآمد ضروری ہو۔ ایک ہندو کے لیے آزادی ہے کہ وہ جو چاہے عمل درآمد کرے..... جس عمل کو چاہے اپناۓ ..... کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے ضروری یا اس کے لیے منوع ہو۔ لہذا اس کا کوئی بھی عمل اسے ہندو مت سے خارج نہیں کرتا اور نہ ہی کسی مذہبی قانون کی خلاف ورزی اسے ہندو مت سے خارج کرتی ہے۔ تاہم کچھ ایسے عقائد ہیں جو بہت سے ہندوؤں میں یکساں پائے جاتے ہیں اگرچہ 100 فیصد ہندو اُن عقائد پر متفق نہیں ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ عقائد پر روشنی ڈالیں گے جبکہ ہم اسلام کے ستونوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں گے۔

### (i) ہندو مت میں خدا کا تصور

اگر آپ ایک عام ہندو سے دریافت کریں کہ وہ کتنے خداوں پر یقین رکھتا ہے..... کچھ ہندو کہیں گے کہ تین ..... کچھ ..... 33 بھی کہہ سکتے ہیں ..... کچھ کہیں گے کہ ایک ہزار جبل کچھ کہیں گے کہ 3 کروڑ اور تمیں لاکھ ..... یعنی 330 ملین۔ لیکن اگر آپ یہ سوال کسی فاضل ہندو سے پوچھیں جو کہ

ہندوؤں کی مذہبی کتب سے بھی واقف ہو..... وہ جواب دے گا کہ درحقیقت ایک ہندو کو ایک خدا پر ایمان لانا چاہیے۔

(ii) اسلام اور ہندو مت کے درمیان فرق ”ایس“ (S) کا ہے

• ہر چیز کا مالک خدا ہے۔ (Every thing is "God's")

• ہر چیز خدا ہے۔ (Every thing is "God")

ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بڑا فرق یہ ہے کہ ہندو اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز خدا کا حصہ ہے ..... یعنی ہر چیز خدا ہے ..... درخت خدا ہے ..... سورج خدا ہے ..... چاند خدا ہے ..... سانپ خدا ہے ..... بندر خدا ہے ..... انسان خدا ہے۔

لہذا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بڑا فرق ”کوئے والے ایس“ (Apostrophe "S") کا ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ:

• ہر چیز خدا ہے۔ (Every thing is God)

جبکہ مسلمان کہتے ہیں کہ: (Every thing is God's)

ہر چیز کا مالک خدا ہے۔

اگر ہم اس ”کوئے والے“ ایس“ کا فرق مٹا سکیں تو ہندو اور مسلم متعدد ہو سکتے ہیں۔

قرآن پاک فرماتا ہے کہ:

”اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے۔“

وہ کلمہ کیا ہے؟

”اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔“

لہذا آئیے ہم ہندوؤں اور مسلمانوں کی مقدس کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے  
کیساں کلمہ کی طرف آتے ہیں۔

### (iii) بھگوڈ گیتا

ہندوؤں کی مذہبی کتب میں سے مقبول عام کتاب بھگوڈ گیتا ہے۔ گیتا کے  
باب نمبر 7..... آیت نمبر 20 میں درج ہے کہ:

”وہ جن کی عقل پر مادی خواہشات کے پردے پڑے ہوئے  
ہیں وہ نعلیٰ خداوں کو پوچھتے ہیں۔“

یعنی کہ وہ جو مادہ پرست ہیں وہ نعلیٰ خداوں کی پوجا کرتے ہیں..... یعنی  
حقیقی خدا کے علاوہ۔

### (iv) اپنشد

یہ بھی ہندوؤں کی مقدس کتب ہیں۔

\* چندو گیا اپنشد..... باب نمبر 6..... سکشن نمبر 2..... آیت نمبر 1۔ چندو گیا  
اپنشد میں درج ہے کہ:

”خدا محض ایک ہے۔ دوسرا خدا کوئی نہیں ہے۔“

\* الیس رادھا کرشا کی اپنشد..... صفحہ نمبر 447 اور 448 (ایٹ وائیم 1 کی  
مقدس کتب..... اپنشد..... حصہ اول..... صفحہ نمبر 93)

قرآن پاک کی سورۃ اخلاص سورۃ نمبر 112..... آیت نمبر 1 میں جو کچھ  
فرمایا گیا ہے اس سے ملتا جلتا اس میں بھی درج ہے یعنی:

”کہو وہ اللہ ہے..... وہ ایک ہے اور محض ایک ہے۔“

\* اپنشد..... باب نمبر 6..... آیت نمبر 9 اس میں درج ہے کہ:

”اس کا نہ باپ ہے۔ نہ ماں ہے۔ نہ ہی اس کا کوئی حاکم ہے۔“  
 ”دنیا میں اس کا کوئی آقا نہیں ہے..... کوئی اس کا حاکم نہیں ہے  
 اور نہ ہی کوئی اس سے مشابہت رکھتا ہے۔ وہ حاکموں کا حاکم  
 ہے..... اس کا کوئی حاکم نہیں ہے۔“

(ایس رادھا کرشنہ کی اپنی صفحہ 745 اور ایسٹ والیم 15 کی مقدس  
 کتب ..... اپنی ..... حصہ دوم صفحہ 263)

اس قسم کا پیغام دیا گیا ہے جس قسم کا پیغام قرآن پاک کی سورۃ اخلاص .....  
 سورۃ نمبر 112 آیت نمبر 3 میں دیا گیا کہ:

”نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔“

\* اپنی ..... باب نمبر 4 ..... آیت نمبر 9 میں درج ہے کہ:

”اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کا نام بڑی شان  
 والا ہے۔“

(اپنی ..... ایس رادھا کرشنہ ..... صفحہ نمبر 736 اور 737 اور ایسٹ والیم 15  
 کی مقدس کتب ..... اپنی ..... حصہ دوم ..... صفحہ نمبر 253)

\* اسی قسم کا پیغام قرآن پاک کی سورۃ اخلاص ..... سورۃ نمبر 112 ..... آیت  
 نمبر 4 میں دیا گیا ہے کہ:

”اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔“

\* سورۃ شوری ..... سورۃ نمبر 42 ..... آیت نمبر 11 میں بھی اسی قسم کا پیغام دیا  
 گیا ہے کہ:

”اس جیسا کوئی نہیں۔“

\* اپنی ..... باب نمبر 4 ..... آیت نمبر 20

”اس کو دیکھا نہیں جا سکتا..... کسی نے بھی اسے اپنی آنکھ سے  
نہیں دیکھا۔“

”اس کو دیکھا نہیں جا سکتا..... کسی نے بھی اسے اپنی آنکھ سے  
نہیں دیکھا وہ جو اسے ذل و دماغ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اس  
کی عبادت کرتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں۔“

(پرپل اپنڈ..... ایس رادھا کرشا..... صفحہ نمبر 737 اور ایسٹ کی مقدس  
کتب والیم نمبر 15..... اپنڈ حصہ دوم ..... صفحہ نمبر 253)

\* اسی قسم کا پیغام قرآن پاک میں سورۃ انعام ..... سورۃ نمبر 6 ..... آیت نمبر  
103 میں بھی دیا گیا ہے کہ:

”آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں اور سب آنکھیں اس کے  
احاطہ میں ہیں اور وہی ہے پورا باطن پورا خبردار۔“

یجرویدا

وید ہندوؤں کی مذہبی کتب میں انتہائی مقدس تصور کیے جاتے ہیں۔ بڑے  
وید چار عدد ہیں:

رگ ویدا

یجرویدا

سام وید

اخاروا وید

یجرویدا..... باب نمبر 32 ..... آیت نمبر 3 میں درج ہے کہ:  
”اس کی کوئی فکل نہیں ہے..... کوئی تصویر نہیں ہے۔“

وہ مزید بیان کرتی ہے کہ:

”اے کسی نے جنم نہیں دیا..... وہ ہماری عبادت کا مستحق ہے..... روشنی کے تمام تر ذرائع اسی کے وجود سے پھوٹتے ہیں مثلاً سورج وغیرہ۔ میری یہ دعا ہے کہ وہ مجھے کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھے..... چونکہ اس نے کسی سے جنم نہیں لیا لہذا وہ ہماری عبادت کا مستحق ہے۔“

(یحرویدا..... دیوی چند ایم۔ اے..... صفحہ نمبر 377)

● یحرویدا..... باب نمبر 40..... آیت نمبر 8

یحرویدا میں باب نمبر 40 آیت نمبر 8 میں درج ہے کہ:

”وہ جسم سے پاک ہے اور پاک ذات ہے۔“

● یحرویدا..... سورۃ نمبر 40..... آیت نمبر 9 میں درج ہے کہ:

”وہ اندر ہیرے میں داخل ہیں جو فطری چیزوں کو پوچھتے ہیں.....

مثلاً ہوا، پانی، آگ وغیرہ۔ وغیرہ۔“

یہ سورۃ مزید بیان کرتی ہے کہ:

”وہ مزید اندر ہیرے میں ڈوبے ہونے ہیں جو سمجھوتی کو پوچھتے

ہیں..... یعنی اپنی تخلیق کردہ چیزوں کو پوچھتے ہیں..... مثلاً کرسی،

میز، بت وغیرہ۔“

(یحرویدا سہما..... رالف ٹی۔ ایچ۔ گرفت..... صفحہ نمبر 538)

● اتحارویدا..... کتاب نمبر 20..... باب نمبر 58..... آیت نمبر 3

”خدا عظیم ہے۔“

● اسی قسم کا پیغام قرآن پاک میں سورۃ رعد..... سورۃ نمبر 13..... آیت نمبر 9

میں دیا گیا ہے کہ:  
”سب سے بڑا بلندی والا۔“

### رگ ویدا

سب ویدوں میں قدیم ترین اور مقدس ترین رگ ویدا اگر دانی جاتی ہے۔

\* رگ ویدا..... کتاب نمبر 1..... باب نمبر 164 آیت نمبر 46 میں درج ہے کہ:  
”جوگی خدائے واحد کوئی ناموں سے پکارتے ہیں۔“

\* رگ ویدا..... باب نمبر 2..... سورۃ نمبر 1

رگ ویدا میں خدا کے کم از کم 33 صفاتی نام درج ہیں..... ان میں سے بہت سے صفاتی نام رگ ویدا..... کتاب نمبر 2 باب نمبر 1 میں درج ہیں۔

\* برحما..... خالق (رگ ویدا..... باب نمبر 2..... سورۃ نمبر 1 آیت نمبر 3)

رگ ویدا میں دیے گئے کئی ایک ناموں میں سے خدا کا ایک خوبصورت صفاتی نام ”برحما“ بھی ہے..... برحما کا مطلب ہے..... تخلیق کرنے والا۔

اگر آپ اس کا عربی میں ترجمہ کریں..... اس کا مطلب ہے.....

”خالق“..... ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر آپ خدا تعالیٰ کو ”خالق“ یا ”تخلیق کرنے والا“ یا ”برحما“ کہہ کر پکاریں..... لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ

”برحما“ وہ خدا ہے جس کے چار سر ہیں اور ہر ایک سر پر ایک تاج رکھا ہے

تو ہم مسلمان سخت احتجاج کریں گے کیونکہ تم خدا کو ایک شکل سے نواز رہے ہو۔ مزید برآں تم بھرویدا..... باب نمبر 32..... آیت نمبر 3 کی کھلم کھلا

خلاف ورزی کر رہے ہو کیونکہ اس میں درج ہے کہ:

”اس کی کوئی شکل نہیں ہے۔“

\* وشنو.....پالنے والا.....رب.....رگ ویدا.....کتاب نمبر 2.....باب نمبر  
1.....آیت نمبر 3

ایک اور خوبصورت صفاتی نام رگ ویدا.....کتاب نمبر 2.....باب نمبر  
1.....آیت نمبر 3 میں درج ہے..... وشنو..... وشنو کا مطلب ہے ”پالنے  
والا“..... اگر آپ اس کا عربی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے ”رب“.....  
ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہ ہوگا اگر کوئی خدا تعالیٰ کو ”رب“ کہہ کر  
پکارے یا ”پالنے والا“ کہہ کر پکارے یا ”وشنو“ کہہ کر پکارے۔ لیکن اگر  
کوئی یہ کہے کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے چار بازو ہیں..... ان میں سے  
ایک دائیں بازو میں اس نے ”چکرا“ تھام رکھا ہے..... تو ہم مسلمان اس  
کے خلاف سخت احتجاج کریں گے۔ مزید برآں تم یا جور ویدا..... باب نمبر  
40..... آیت نمبر 8 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہو۔

\* رگ ویدا.....کتاب نمبر 8..... آیت نمبر 1 میں درج ہے کہ:  
”اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تمام تعریفیں اسی کے  
لیے ہیں۔“

\* رگ ویدا.....کتاب نمبر 5..... باب نمبر 81..... آیت نمبر 1 میں درج ہے کہ:  
”وَ عظِيمٌ هُـ۔ بُرْدِي شان والا ہے اور دنیا کا خالق ہے۔“  
قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ..... سورۃ نمبر 1..... آیت نمبر 2 میں بھی اس  
سے ملتا جلتا پیغام دیا گیا ہے کہ:

”سُبْ خَوَيْهَا اللَّهُ كُوْجُو مَا لَكَ سَارَے جَهَانَ وَالْوَوْنَ كَا۔“

\* رگ ویدا.....کتاب نمبر 3..... باب نمبر 34..... آیت نمبر 1 میں درج ہے کہ  
”مُهْرِيَانِي كَرْنَے والا۔“

- اسی قسم کا پیغام قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ ..... سورۃ نمبر 1 ..... آیت نمبر 3  
میں دیا گیا کہ:  
”بہت مہربان رحمت والا ہے۔“
- سچ رویدا ..... باب نمبر 40 ..... آیت نمبر 160 میں درج ہے کہ:  
”ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمارے گناہ معاف فرم۔“
- اسی قسم کا پیغام قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ ..... سورۃ نمبر 1 ..... آیت نمبر 6  
اور 7 میں دیا گیا ہے کہ:  
”ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ  
ان کا جن پر غصب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کا۔“
- رگ ویدا ..... کتاب نمبر 6 ..... باب نمبر 45 ..... آیت نمبر 16 میں درج ہے کہ:  
”تعریف اس کے لیے جس کا کوئی ثانی نہیں جو اکیلا ہے۔“  
برہماسترا آف ہندو ویدا نت:
- ”خدا محض ایک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔۔۔ کوئی  
نہیں ہے۔۔۔ کوئی نہیں ہے۔۔۔ بالکل نہیں ہے۔“
- لہذا آپ اسی صورت میں ہندو مت میں خدا کے صحیح تصور سے آشنا ہو سکتے  
ہیں جبکہ آپ ان کی مذہبی کتب کا مطالعہ کریں۔

### فرشته

- اسلام میں فرشتوں کا تصور  
فرشته بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں دکھائی نہیں دیتے

اور ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے..... وہ نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو انسان کی طرح اختیار سے نہیں نوازا گیا ہے اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف فرائض سونپ رکھے ہیں..... مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبران خدا پر وحی لے کر آتے تھے۔

### ہندو مت میں فرشتے

ہندو مت میں فرشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تاہم ان میں کسی قسم کی برتر اور طاقت ور مخلوق کا تصور موجود ہے جو وہ کام سرانجام دیتی ہے جو عام لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے۔ کچھ ہندوان کو بھی خدا سمجھ کر پوچھتے ہیں۔

### ہندو مت کی مذہبی کتب تعارف

ہندو مت میں دو اقسام کی مقدس تحریریں ہیں۔

(i) سروتی (Sruti)

(ii) سمرتی (Smrti)

سروتی کا مطلب ہے وہ تحریریں جو سنی گئیں اور سمجھیں گئیں۔ یہ مذہبی کتب ہندوؤں کی قدیم ترین اور مقدس ترین کتب تصور کی جاتی ہیں۔ سروتی کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

(i) وید

(ii) اپنشد

ان کو الہامی کتب تصور کیا جاتا ہے۔

سمرتی کو اتنا مقدس تصور نہیں کیا جاتا جتنا مقدس سروتی کو تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اہم حیثیت حاصل ہے اور آج کل ہندوؤں میں مقبول عام ہیں۔ سمرتی کا مطلب ہے یادداشت یا یاد کیا ہوا۔ ہندوؤں کے اس ادب کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ یہ زمانے کے حقائق کی نشاندہی کرتا ہے۔ سمرتی کو الہامی کتب تصور نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو انسانی تدوین شدہ اور مرتب شدہ تصور کیا جاتا ہے جو انسانوں کو روزمرہ زندگی کے طور طریقوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں اور انسانوں کے لیے قوانین وضع کرتی ہیں کہ انھیں معاشرے اور انسانوں کی برادری میں کس قسم کے عمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ان کو دھرم اشاستہ بھی کہا جاتا ہے۔ سمرتی کئی ایک تحریروں پر مشتمل ہیں۔ ان میں پرانا (Puranas) بھی شامل ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہندوؤں کی کئی ایک مقدس کتب ہیں..... ان میں ویدا..... اپنیشاد اور پرانا وغیرہ۔

ویدا

- \* یہ لفظ ..... لفظ وید سے نکلا ہے ..... اس کا مطلب ہے ..... جانا ..... علم رکھنا ..... حکمت مقدس ..... یہ چار اقسام سے متعلق ہیں۔
- \* رگ ویدا..... یا جور ویدا اور سام ویدا زیادہ قدیم تصور کی جاتی ہیں اور ان کو ”ترائی و دیا“ یا ”ٹریبل سائنسز“ کہا جاتا ہے..... یعنی تین ویدیں یا تین سائنس۔

رگ ویدا قدیم ترین ہے اور اس کی تدوین مختلف ادوار میں ہے۔ مرتبا

سرانجام دی گئی ہے۔

چوتھی ویدا..... اتحار و اویدا ہے جو بعد کے زمانے کی ہے۔

ان چاروں ویدوں کی تدوین یا ان کے منظر عام پر آنے کے بارے میں کسی قسم کی متفقہ رائے قائم نہیں ہے۔ سو ایسی دیانتند کے مطابق ..... جو آریا سماج کا بانی ہے..... ویدوں کا نزول لاکھوں برس قبل ہوا تھا اور دیگر مفکرین کے بقول یہ 4000 برس سے زائد قدیم نہیں ہیں۔

اسی طرح ان مقالات کے بارے میں بھی کسی قسم کا اتفاق رائے موجود نہیں ہے جہاں پر یہ کتب نازل ہوئی تھیں اور اس ہستی کے بارے میں بھی اتفاق رائے موجود نہیں ہے جس پر یہ کتب نازل ہوئی تھیں۔ ان اختلافات کے باوجود بھی یہ ہندوؤں کی انتہائی قابل اعتماد کتب ہیں اور ہندو دھرم کا حقیقی آغاز ہیں۔

اپنڈ

لفظ اپنڈ لفظ ”اوپا“ (UPA) سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں نزدیک ..... ”نی“ (Ni) کا مطلب ہے یعنی (Down) ..... ”شاد“ کا مطلب ہے بیٹھنا (To Sit) ..... اس لیے اپنڈ کا مطلب ہوا کہ:

”طالب علموں کے گروہ کا اپنے استاد کے قریب بیٹھنا۔“

”استاد کے نزدیک بیٹھنا تاکہ اس سے پوشیدہ علوم کی تعلیم حاصل کی جاسکے۔“

ایک اور ترجیح کے مطابق اپنڈ کا مطلب ہے کہ:

”برہما کا علم جس کی پریلوں جہالت کے اندر ہیرے ختم ہوتے ہیں۔“

اپنہ دل کی تعداد 200 سے زائد ہے اگرچہ ہندوستانی روایات نے انھیں 108 تک محدود کیا ہوا ہے ..... 10 بنیادی اپنہ دل ہیں جبکہ کچھ لوگ ان کو دس سے زائد تصور کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ 18 تصور کرتے ہیں۔

ویدانت سے مطلب اپنہ دل لیا جاتا تھا اگرچہ آج کل یہ لفظ فلسفے کے اس نظام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اپنہ دل پر بنیاد کرتا ہو۔ ویدانت کے لغوی معانی ہیں ”ویدا کا اختتام“ ..... ویدا کا اختتام اور اس کے مقاصد ..... اپنہ دل ویدا کے اختتامی حصے ہیں اور تاریخی اعتبار سے بھی وہ ویدک دورانیے کے بعد شمار ہوتے ہیں۔

کچھ پنڈت اپنہ دل کو ویدوں سے برتر تصور کرتے ہیں۔

### (Puranas)

قابل اعتماد ہونے کے لحاظ سے اس کے بعد پرانا ہیں ..... یہ وہ مذہبی مواد ہے جس کا عام مطالعہ کیا جاتا ہے ..... ان میں دنیا کی تخلیق کی تاریخ درج ہے ..... ابتدائی آریائی قبیلوں کی تاریخ درج ہے اور ہندوؤں کے خداوں کی زندگی کا تذکرہ درج ہے۔

مہارشی ویاس نے پرانا کو 18 جلدیں میں تقسیم کیا ہے۔ اس نے ویدوں کو بھی مختلف عنوانات کے تحت ترتیب دیا ہے۔ گیتا اور مہا بھارت بھی اس کے زور قلم کا نتیجہ تھی۔

ان میں اہم کتاب بجاویشا پرانا ہے۔ اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ ہندو اسے کلام الہی تصور کرتے ہیں اور یہ کہ مہارشی ویاس نے محض اس کتاب کو مرتب کیا تھا اور اس کا حقیقی مصنف خدا بذات خود ہے۔

بھاوشیا پر انا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی

حقة پر اپنی سر آگ میں ..... بھاوشیا پر انا کے مطابق کہ:

”ایک مذہبی رہنمایا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ منظر عام پر آئیں گے ..... ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گا۔“

یہ پیش گوئی واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ:

پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گا۔

ان کا تعلق عرب سے ہو گا۔



پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے ..... صحابہ کرام ..... کسی بھی پیغمبر کے اتنے ساتھی نہ تھے جتنے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کا فخر قرار دیا گیا ہے۔

قرآن پاک اس کی تصدیق سورۃ قلم ..... سورۃ نمبر 68 ..... آیت نمبر

4 ..... میں فرماتا ہے کہ:

”اور بے شک تھاری خوبی بڑی شان کی ہے۔“

قرآن پاک سورۃ احزاب ..... سورۃ نمبر 33 ..... آیت نمبر 21 میں بھی اس

کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ:

”اللہ کا نبی اخلاق حسنہ کا مجموعہ ہے۔“

وہ بدی اور برائی کا خاتمہ کریں گے ..... بت پرستی کا خاتمہ فرمائیں گے اور

تمام تربدی اور برائی کا خاتمہ کریں گے۔

ان کو دشمن کے خلاف تحفظ فراہم کیا جائے گا۔

کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ راجہ بھوج جس کا ذکر پیشین گوئی میں موجود ہے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیبعثت کے 500 برس بعد کا راجہ تھا۔ یہ لوگ یہ سوچنے میں ناکام رہتے ہیں کہ راجہ بھوج نام کا شخص ایک ہی راجہ موجود نہ تھا۔ جس طرح مصری جکر ان فرعون کہلاتے تھے اور روم کے حکمری قیصر کہلاتے تھے بالکل اسی طرح ہندوستانی راجہ بھوج کہلاتے تھے۔ کئی ایک راجہ بھوج تھے جو کہ اس راجہ بھوج سے پہلے ہو گزرے تھے جو راجہ بھوج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیبعثت کے 500 برس بعد کا راجہ تھا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہ نفس نفس گنگا میں غسل نہیں فرمایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود گنگا کے پانی کو مقدس گردانا جاتا ہے۔ گنگا میں نہانے کا محاورتاً مطلب یہ ہے کہ تمام گناہوں کو دھوڑانا یا تمام گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرتا۔ یہاں پر پیشین گوئی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں یعنی ”معصوم“ ہیں۔  
بھاوشیا پر انا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی

بھاوشیا پر انا کے مطابق ویاس نے پیشین گوئی کی ہے کہ:

”ملچھ (گناہگار) نے عرب سرزی میں کا ستیا ناں کر کے رکھ دیا ہے۔ اس ملک میں آریا دھرم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک گمراہ دوست بھی منظر عام پر آیا تھا جس کو میں نے ہلاک کر دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ نمودار ہوا ہے۔ اسے ایک قوی ترین دشمن نے بھیجا ہے۔ ان دشمنوں کو صراط مستقیم سے روشناس

کروانے اور ان کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو میں نے برحما کا لقب دیا ہے وہ گناہگاروں کو صراط مستقیم پر لانے میں مصروف ہیں۔ اے راجہ تھیں ان بے وقوف گناہگاروں کی سرزین جانے کی ضرورت نہیں..... تم رات کو جہاں کہیں بھی ہو گے میری مہربانی کے توسط سے پاکی حاصل کرو گے۔ اس فرشتہ صفت زیرِ انسان نے راجہ بھوج سے کہا کہ اے راجہ! تمہارا آریا دھرم اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی جھلک تمام مذاہب میں نظر آئے لیکن ایشور پر ماتما کے حکم کے مطابق مجھے گوشت خوروں کی اشد ضرورت ہوگی۔ میرے پیروکار ختنہ شدہ ہوں گے۔ ان کے سر پر چوٹی نہیں ہوگی۔ وہ داڑھی رکھیں گے۔ وہ اذان پڑھتے ہوئے انقلاب برپا کریں گے (صلوٰۃ کے لیے بلاوا) اور تمام حلال چیزیں کھائیں گے۔ وہ جہاد کے ذریعہ پاکی اور پارسائی حاصل کریں گے..... وہ غیر مذہبی اقوام کے خلاف جہاد کریں گے..... وہ مسلمان کھلا میں گے۔ میں گوشت خور قوم کے مذہب کا بانی ہوں گا۔“

پیشین گوئی بیان کرتی ہے کہ:

بدکاروں نے عرب سرزین کو بعد عنوانی میں ملوث کر دیا ہے۔

اس سرزین پر آریا دھرم کا وجود نہیں ہے۔

موجودہ دشمن بھی اسی طرح تباہ ہو جائیں گے جس طرح سابقہ دشمن مثلاً ابرہيم تباہ ہوا تھا۔

قرآن پاک اس قسم کے سابقہ دشمنوں کا تذکرہ سورہ افیل..... سورۃ نمبر

..... آیت نمبر 15 فرماتا ہے کہ:

”اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تم حمارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ کیا ان ~~کا~~ داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی لکڑیاں بھیجیں کہ انھیں کنکر کے پھروں سے مارتے تو انھیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔“

\* پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کے خلفین کی رہنمائی کے لیے براہما کا خطاب دیا گیا ہے۔

\* ہندوستانی راجہ کو عرب جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسلمانوں کے ہندوستان چکنچنے کے بعد اس کی پاکی ہندوستان میں ہی سراجام پا جائے گی۔ آنے والا پیغمبر آریائی مذہب کی سچائی پھیلانے گا یعنی وحدانیت۔۔۔ توحید۔۔۔ اور غیر اصلاح یافتہ لوگوں کی اصلاح سراجام دے گا۔

\* پیغمبر کے پیروکار ختنے کروائیں گے۔ ان کے سر پر چوٹی نہیں ہوگی۔ وہ داڑھی رکھیں گے اور ایک عظیم انقلاب برپا کریں گے۔

\* وہ اذان پڑھیں گے۔۔۔ یعنی نماز ادا کرنے کے لیے بلاوا۔ وہ محض حلال اشیاء استعمال کرنے گا اور حلال جانور کھائے گا لیکن سور کا گوشت نہیں کھائے گا۔ قرآن پاک اس کی تصدیق کم از کم چار مختلف مقامات پر فرماتا ہے:

\* سورۃ البقرہ۔۔۔ سورۃ نمبر 2۔۔۔ آیت نمبر 173

\* سورۃ المائدہ۔۔۔ سورۃ نمبر 5۔۔۔ آیت نمبر 3

\* سورۃ النعام۔۔۔ سورۃ نمبر 6۔۔۔ آیت نمبر 145

\* سورۃ الحمل۔۔۔ سورۃ نمبر 16۔۔۔ آیت نمبر 115

”تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور  
جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔“

وہ ہندوؤں کی طرح گھاس سے پاکی حاصل نہیں کریں گے بلکہ تکوار کے  
ذریعے پاکی اور پارسائی حاصل کریں گے۔ وہ غیر مذہبی لوگوں کے خلاف  
لڑیں گے۔

ان کو مسلمان کہہ کر پکارا جائے گا۔  
وہ ایک گوشت خور قوم ہوگی۔

قرآن پاک حلال جانوروں کے کھانے کی تصدیق درج ذیل مقامات پر  
فرماتا ہے:

سورة مائدہ.....سورۃ نمبر 5.....آیت نمبر 1 اور

سورة مومون.....سورۃ نمبر 23.....آیت نمبر 21

تبصرہ

بجاویشیا پرانا کے مطابق کاشی (Kashi) وغیرہ کے سات مقدس شہروں میں  
بدعنوی اور قلم و تشدید کا بازار گرم ہے۔ ہندوستان میں راکھش  
(Rakshas) ..... شابر (Shabar) ..... بھیل (Bhil) اور دیگر بے  
وقف لوگ آباد ہیں۔ اسلام کے پیروکار دانش مند ہیں۔ مسلمانوں میں  
تمام اچھی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اسلام ہندوستان اور اس کے جزیروں پر  
حکومت کرے گا..... ان حقائق کو جاننے کے بعد اے مُنِّی خدا کے نام کے  
گیت گا۔

قرآن پاک اس کی تصدیق فرماتا ہے:

سورة توبہ.....سورہ نمبر 9.....آیت نمبر 33 اور

سورة صف.....سورہ نمبر 61.....آیت نمبر 9

”وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور پتے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ پڑے بر امیں مشرک۔“ اور اسی قسم کا پیغام سورۃ فتح.....سورہ نمبر 48.....آیت نمبر 28 میں دیا گیا ہے جس کے اختتام میں فرمایا گیا ہے کہ ”اور اللہ کافی ہے گواہ۔“

بھاؤ شیا پرانا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی اخخار وا دیدا کی کتاب نمبر 20 سورہ نمبر 127.....کچھ سکتاں (ابواب) کتاب سکتاں (Kuntap Suktas) کہلاتی ہیں.....جس کا مطلب ہے کہ تکالیف اور مصائب کا خاتمہ کرنے والا.....یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امن اور سلامتی اور تحفظ کا پیغام دینے والا اور اگر اس کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ”اسلام۔“

کتاب کا مطلب یہ بھی ہے کہ مخفی معانی جو کہ مستقبل میں ظاہر ہونے ہوں۔ اس کے مخفی معانی زمین کے درمیانی نقطے کے ساتھ بھی مسلک ہیں۔ مکہ شریف کو اُمّۃ الفری.....یعنی شہروں کی ماں یا زمین کا مرکز بھی کہا جاتا ہے.....بہت سی الہامی کتب کے مطابق یہ خدا کا پہلا گھر تھا جہاں سے خدا تعالیٰ نے دنیا کو روحانیت سے فیض یا ب کیا۔

قرآن پاک سورۃ آل عمران.....سورہ نمبر 3.....آیت نمبر 95.....میں فرماتا ہے کہ:

”بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ

ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کا راہنما۔“  
مکہ شریف کا ایک اور نام ”بکہ“ بھی ہے۔ لہذا کتاب (Kuntap) مکہ  
یا بکہ کا ذکر کرتی ہے۔

بہت سے لوگوں نے ان کتاب سکناس کا ترجمہ کیا ہے ..... مثلاً ایم۔ بلوم  
فیلڈ ..... پروفیسر رالف گرفتھ ..... پنڈت راجہ رام ..... پنڈت کھیتم کرن  
وغیرہ وغیرہ۔

اتھاروا وید ..... کتاب نمبر 20 ..... باب نمبر 127 ..... آیت نمبر 113 .....  
کتاب سکناس میں درج بڑے بڑے نکات درج ذیل ہیں۔

#### مانتر 11

- اس کی تعریف کی گئی ہے (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
- وہ کوراما ہے ..... آمن کا شہزادہ ..... یا مہاجرین کا شہزادہ ..... جو محفوظ  
ہے ..... حتیٰ کہ 60,090 دشمنوں میں بھی محفوظ ہے۔

#### مانتر 21

- وہ اونٹ پر سواری کرنے والا رشی (Rishi) ہے۔

#### مانتر 31

- وہ مماج رشی ہے (Mamah Rishi) ہے جس کو ایک سوسو نے کے  
سکے ..... 10 مالا 300 ..... (Necklaces) گھوڑے اور 10,000  
گائیں دی گئی ہیں۔

#### مانتر 41

- وہ جوشان سے نوازتا ہے۔

مانتر 51

- \* اپنی نمازوں کے ذریعے عبادت کرتا ہے۔

مانتر 52

- \* جو تعریف سرانجام دیتا ہے۔ داش کا حامل ہے۔ جو اچھی باتوں کی نصیحت کرتا ہے۔

مانتر 53

- \* وہ جہانوں کا بادشاہ ہے۔ بہترین انسان ہے اور تمام تر انسانیت کا رہنماء ہے۔

مانتر 54 اور 5

- \* وہ ہر ایک کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اس نے دنیا میں اُمّن پھیلایا ہے۔

مانتر 56

- \* اس کی حکمرانی میں لوگ خوش ہیں اور پستی سے بلندی تک پہنچے ہیں۔

مانتر 57

- \* اس کا کام دنیا کو جگانا اور خبردار کرنا ہے۔

مانتر 58

- \* وہ بڑا مہربان ہے۔

مانتر 59

- \* اس کے پیروکاروں کو دشمنوں کی عداوت سے بچایا گیا ہے اور ان کو نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں ہے۔

- \* ہم تعریفی نفعی کے ساتھ اس عظیم ہیرود کی تعریف کرتے ہیں۔ براہ مہربانی

اس تعریف کو قبول کیجئے تاکہ ہم بدی میں بیٹلانہ ہوں۔

(i) ”جس کی تعریف کی گئی“ جو کہ عربی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ ہے۔

سنکرت کے لفظ ”کوراما“ کا مطلب ہے کہ ”وہ جو امن و سلامتی پھیلاتا ہے اور امن و سلامتی کو فروغ بخشتا ہے۔“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ”امن کے شہزادے“ تھے اور انہوں نے انسانیت کو مساوات اور عالمی بھائی چارے کا درس دیا تھا۔ ”کوراما“ کا مطلب ”ایک مہاجر“ بھی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تھی۔ لہذا وہ ایک مہاجر بھی تھے۔ ان کو 60,090 دشمنوں سے بچایا جائے گا جو کہ مکہ شریف کی آبادی تھی۔

(ii) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سواری کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندوستانی رشی نہیں ہو سکتے کیونکہ برہمن کو اونٹ کی سواری منوع ہے (مشرق کی مقدس کتب ..... والیم نمبر 25 ..... قوانین منو صفحہ نمبر 472 ..... ب MATLAB منوسرا تی ..... باب نمبر 11 آیت نمبر 202)

”ایک برہمن کے لیے اونٹ کی سواری یا گدھے کی سواری اور برہمنہ حالت میں نہانا منوع ہے۔ اسے اپنے سانس کو دباتے ہوئے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔“

(iii) مانتر نے رشی کو مماح کا نام دیا ہے۔ ہندوستان میں کسی رشی یا کسی اور پیغمبر کا یہ نام نہ تھا۔ یہ نام ماہ (Mah) سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے

بہت زیادہ عزت والا..... منکرت کی کچھ کتابوں نے پیغمبر ان کو "محمد" کا نام دیا ہے۔ لیکن یہ لفظ منکرت گرائمر کے حساب سے برے معانی کے تحت بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ایک عربی لفظ پر گرائمر کا اطلاق درست نہیں ہے۔ درحقیقت ممکن کے وہی معانی ہیں جو کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معانی ہیں۔

ان کو 100 سونے کے سکے دیے گئے ہیں..... جو پیغمبر ان اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمہ شریف کی مصائب بھری زندگی کے دوران آغاز ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ مابعد ظلم و ستم سے خلاصی پانے کی غرض سے پیغمبر ان اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ شریف کی جانب ہجرت کی۔

10 مالا سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس بہترین صحابہ کرام (اللہ آپ سب پر راضی ہو) تھے..... جو کہ "عشرہ مبشرہ" کہلاتے ہیں..... ان کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ وہ درج صحابہ کرام (اللہ آپ سب پر راضی ہو) تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق (اللہ آپ پر راضی ہو)

حضرت عمر (اللہ آپ پر راضی ہو)

حضرت عثمان (اللہ آپ پر راضی ہو)

حضرت علی (اللہ آپ پر راضی ہو)

حضرت طلحہ (اللہ آپ پر راضی ہو)

حضرت زبیر (اللہ آپ پر راضی ہو)

حضرت عبد الرحمن بن عوف (اللہ آپ پر راضی ہو)

حضرت سعد بن اہن و قاص (اللہ آپ پر راضی ہو)

حضرت سعد بن زید (اللہ آپ پر راضی ہو)

حضرت ابو عبیدہ (اللہ آپ پر راضی ہو)

\* تیرا تھے 300 بہترین گھوڑے تھے۔ یہ گھوڑے عربی نسل کے تھے۔

سنکرت لفظ آروہ (Arvah) کا مطلب ہے بہترین عربی گھوڑے.....

300 گھوڑے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 300 جان ثار

صحابہ کرام (اللہ آپ سب پر راضی ہو) کا حوالہ پیش کرتے ہیں جنہوں

نے بدر کے میدان میں اسلام اور کفر کے درمیان پہلے معز کے میں حصہ لیا

تھا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح یا ب ہوئے تھے اگرچہ دشمن کی تعداد ان سے

تمن گناہ اندھی۔

\* سنکرت کا لفظ ”گو“ (Go) لفظ ”گا“ (Gaw) سے اخذ کیا گیا ہے۔ جس

کا مطلب ہے ”جنگ کے لیے روانہ ہونا“..... گائے کو ”گو“ کہا جاتا ہے۔

یہ جنگ اور امن دونوں کی علامت ہے..... 10,000 گائے میں ان

10,000 جان ثاروں کا حوالہ پیش کرتے ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے اس وقت ہمراہ تھے جب وہ فتح مکہ کے دوران مکہ میں داخل

ہوئے تھے جو انسانی تاریخ میں ایک بے مثال فتح تھی..... ایک ایسی فتح

جس میں بالکل خون خرا بہ نہیں ہوا تھا۔ یہ 10,000 جان ثار گائے کی طرح

بے ضرر اور درد مند تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں پر سخت بھی تھے۔

قرآن پاک سورۃ فتح ..... سورۃ نمبر 48 ..... آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت

ہیں اور آپس میں نزم دل.....“

- (iv) مانتر اپنیبر کورب (Rebh) کہہ کر حاضر کرتا ہے جس کا مطلب ہے ”وہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔“ اس کا جب عربی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ”احمد“ بتا ہے جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور نام مبارک ہے۔
- (v) وہ اور ان کے صحابہ کرام (اللہ آپ سب پر راضی ہو) میدان جہاد میں بھی اپنی نمازوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔
- قرآن پاک سورۃ البقرہ.....سورۃ نمبر 2.....آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے کہ:
- ”اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔“
- قرآن پاک سورۃ النساء.....سورۃ نمبر 4.....آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے کہ:
- ”اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرماء ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پچھے ہو جائیں اور اب وہ دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی۔ اب وہ تمہارے مقدمی ہوں اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔“
- (vi) مانتر میں جس حکمت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ قرآن پاک کی نشاندہی کرتی ہے۔ قرآن پاک نہ صرف اس دنیا میں بہتری کا ضامن ہے بلکہ آخرت کی دنیا میں بھی بہتری کا ضامن ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کو فروع نجاشا۔ انھوں نے اپنے صحابہ کرام (اللہ آپ سب سے راضی ہو) کو اس کی تعلیم فرمائی اور ان میں سے کئی ایک ایسے تھے جنھوں نے قرآن پاک کو حفظ بھی کیا۔

(vii) اس مانتر میں بیان کی گئی تمام تر صفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاگو ہوتی ہیں۔

\* قرآن پاک سورۃ النبیاء..... سورۃ نمبر 21..... آیت نمبر 107 میں فرماتا ہے کہ:

”اور ہم نے تمھیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔“

\* قرآن پاک سورۃ سبا..... سورۃ نمبر 34..... آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے کہ:

”اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ خوشخبری دیتا اور ڈر سانا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔“

\* قرآن پاک سورۃ قلم..... سورۃ نمبر 68..... آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے کہ:

”اور بے شک تمہاری خوبیو بڑی شان کی ہے۔“

\* قرآن پاک سورۃ الحزاب..... سورۃ نمبر 33..... آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے کہ:

”بے شک اللہ کا رسول بہترین اخلاق کا مجموعہ ہے۔“

(viii)-(ix) کعبہ کی تعمیر نو کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور دانش کی وجہ سے عرب قبیلے ایک دوسرے سے برس پیکار ہونے سے پچ گئے..... ان کے درمیان لڑائی کا خطرہ مل گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سرز میں عرب کو امن اور سلامتی بخشی بلکہ تمام دنیا کو امن اور سلامتی بخشی۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے دوران بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن قائم فرمایا۔ سلامتی بخشی اور ایک قطرہ خون بھائے بغیر فتح مکہ کا عمل مکمل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑے سے

بڑے دشمن کو بھی امان بخشی اور فرمایا کہ:

”آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔“

(x) 1400 برس پیشتر عرب انتہائی جاہل واقع ہوئے تھے اور یہ دور دور جہالت کھلاتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیانام کے ذریعے انھیں وقار بخشنا اور ان جاہل لوگوں کی جہالت دور کرتے ہوئے انھیں روشنی کا علم بردار بنادیا۔

(xi) یہ مانtra قرآن پاک کی سورۃ مدثر ..... سورۃ نمبر 74 ..... آیات نمبر 1 تا 3 کا ترجمہ پیش کرتا ہے کہ:

”اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناو اور اپنے رب ہی کی براہی بولو۔“

پیغمبر اسلام اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خبردار کیا اور اپنے رب کی عظمت کے بارے میں لوگوں کو پا خبر فرمایا۔

(xii) قرآن پاک سورۃ آل عمران ..... سورۃ نمبر 3 ..... آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے کہ:

”تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے زم دل ہوئے اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جائے۔“

یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زم ..... مہربانی اور شفقت تھی کہ لوگ ان کے گرد جمع ہوئے و گرنہ عربوں کے دل جیتنا آسان نہ تھا۔

(xiii) یہ مانtra پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دعا ہے ..... اسی قسم کی ایک دعا قرآن پاک کی آخری سورۃ میں بھی موجود ہے۔

سورة الناس.....سورۃ نمبر 114.....آیات نمبر 1 تا 3

”تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب۔ سب  
لوگوں کا بادشاہ۔ سب لوگوں کا خدا۔ اس کے شر سے دلوں میں  
برے خطرے ڈالے اور دبک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں  
وسوے ڈالتے ہیں جن اور آدمی۔“

(xiv) آخری مانتر میں ویدا کے رشی ویدا کے پیر و کاروں پر یہ پابندی عائد کی ہے  
کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرز میں کی تعریف بیان کریں  
اور ان کی پیرودی کریں تاکہ وہ دنیاوی برائیوں سے فتح سکیں۔

ویدوں میں بیان کی گئی جنگیں

اٹھاروا ویدا.....کتاب نمبر 20.....آیت نمبر 21.....باب نمبر 6 میں درج  
ہے کہ:

”وہ بغیر جنگ کیے دس ہزار دشمنوں پر غالب آ گئے۔“

(i) ویدا کی یہ پیشین گوئی مشہور جنگ.....جنگ احزاب بیان کرتی ہے جو پیغمبر  
اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں ہوئی تھی اس  
جنگ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑے بغیر ہی فتح حاصل ہوئی  
تھی۔ اس جنگ کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ احزاب.....سورۃ نمبر  
33.....آیت نمبر 22 میں کیا گیا ہے:

”اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ  
جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور فتح فرمایا اللہ  
اور اس کے رسول نے.....“

ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا اور وہ ذوق شوق کے ساتھ تابعوں میں مصروف ہو گئے۔

- (ii) ماترا میں سنکرت کے لفظ ”کارو“ (Karo) کا مطلب ہے ”جس کی تعریف کی گئی ہو۔“ اس کا جب عربی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے ”احمد“..... پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام مبارک۔
- (iii) ماترا میں بیان کیے گئے 10,000 دشمن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے اور مسلمان تعداد میں محض 3000 تھے۔
- (iv) ماترا کے آخری الفاظ یہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ لڑے بغیر ہی دشمنوں کو شکست سے دوچار کر دیا گیا۔

### فتح مکہ میں دشمنوں کی شکست

اتھارواویہا..... کتاب نمبر 20..... باب نمبر 21..... آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ:

”تم اے ہندوستان تم نے 20 بادشاہوں اور 60,099 افراد کو شکست دی جو اس سے جنگ کرنے کے لیے آئے جس کی تعریف کی گئی یا جس کی شہرت دور دور تک تھی (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یتیم تھے۔“

- (i) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مکہ کی آبادی تقریباً 60,000 تھی۔
- (ii) مکہ میں کئی ایک قبیلے آباد تھے۔ ہر ایک قبیلے کا ایک سردار تھا۔ تقریباً 20 سردار تھے جو مکہ کی آبادی پر حکومت کرتے تھے۔
- (iii) ایک ”اباندھو“ (Abandhu) کا مطلب ہے بے یار و مددگار، سُتی جس کی

شہرت بور دور تک تھی اور جس کی "تعریف کی گئی تھی" (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) خدا کی مدد کے ساتھ دشمنوں پر غالب آئے۔ اسی طرح کی پیشین گوئی رگ ویدا..... کتاب نمبر 1 ..... باب نمبر 53 ..... آیت نمبر 9 میں بھی کی گئی ہے۔

سنکریت کا لفظ ششرانہ (Sushrana) استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے "جس کی تعریف کی گئی" ہو..... یا جس کی از حد تعریف کی گئی ہو۔ عربی میں اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

سام وید میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کتاب نمبر II ..... باب نمبر 6 ..... آیت نمبر 8

"احمد کو اس کے خدا نے دائیٰ قوانین عطا فرمائے ..... میں نے ان سے روشنی پائی جیسے سورج سے روشنی پائی جاتی ہے۔"

اس پیشین گوئی میں یہ تصدیق کی گئی ہے کہ:

(i) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد ہے ..... تاہم احمد ایک عربی لفظ ہے۔

(ii) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیٰ قوانین عطا فرمائے گئے تھے ..... یعنی شرع شریف۔

(iii) رشی شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے منور ہوا تھا۔

\* قرآن پاک سما..... سورہ نمبر 34 ..... آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے کہ:

"اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے خوشخبری دیتا ہے اور ذرستاتا ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔"

## وہ سوالات جو ہندو اکثر اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں

## کیا ویدیوں الہامی کتب ہیں؟

**سوال:** اگر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں تو ہندوستان میں کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟

کیا ہم ویدوں اور دیگر ہندو مذہبی کتب کو کلام الہی تصور کر سکتے ہیں؟

جواب: ہر دور میں الہامی کتب نازل فرمائی گئیں تھیں۔

سورہ رعد ..... سورہ نمبر 13 ..... آیت نمبر 38 میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ:

”ہر دور کے لپے ایک کتاب ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے چار الہامی کتب کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔

قرآن پاک میں نام لے کر محض 4 الہامی کتب کا ذکر فرمایا ہے یعنی:

تورات  
زبور  
انجیل  
قرآن پاک  
تورات وہ الہامی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی تھی۔

- زیوروہ الہامی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی۔
- انجلی وہ الہامی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی۔
- قرآن پاک آخری الہامی کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی تھی۔
- تمام سابقہ الہامی کتب اپنے اپنے دور کے لوگوں کے لیے مخصوص تھیں۔
- قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی تمام تر الہامی کتب اپنے اپنے دور کے لوگوں کے لیے تھیں اور ایک مخصوص دورانیے تک کاراً مددھیں۔
- قرآن پاک تمام تر انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے
- چونکہ قرآن پاک آخری الہامی کتاب ہے لہذا یہ محض مسلمانوں کے لیے نازل نہیں فرمائی گئی یا محض عربوں کے لیے نازل نہیں فرمائی گئی بلکہ یہ تمام تر انسانیت کے لیے نازل فرمائی گئی ہے۔

سورۃ ابراہیم ..... سورۃ نمبر 14 ..... آیت نمبر 1

درج بالا سورۃ کی آیت نمبر 1 میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ:

”الف۔ لام۔ را۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ  
تم لوگوں کو اندھیروں سے اجائے میں لاو۔“ (القرآن 1:14)

اسی قسم کا پیغام سورۃ ابراہیم ..... سورۃ نمبر 14 ..... آیت نمبر 52 میں بھی  
دھرا یا گیا ہے۔

”یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے  
جائیں اور وہ اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبد ہے  
اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانیں۔“ (القرآن 52:14)

اسی قسم کا پیغام سورۃ زمر.....سورۃ نمبر 39.....آیت نمبر 41 میں دہرایا گیا ہے۔

”بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے

ساتھ اتاری۔“ (القرآن 41:39)

ہندوستان کے لیے کون سی کتاب نازل فرمائی گئی

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:

”ہندوستان میں کون سی الہامی کتاب نازل فرمائی گئی اور کیا ہم

ویدوں اور دیگر ہندو مذہب کتب کو الہامی کتب تصور کر سکتے ہیں؟“

چونکہ قرآن پاک اور صحیح حدیث میں ویدوں اور دیگر ہندو مذہبی کتب کے

نام نہیں پائے جاتے ..... لہذا کوئی بھی شخص یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ الہامی

کتب تھیں ..... یہ الہامی کتب ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتیں ..... اس بارے میں

یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔

اگر یہ تصور بھی کر لیا جائے کہ ویدا کلام الہامی تھا تب بھی آج آپ کو  
قرآن پاک کی پیروی کرنا ہوگی

اگر یہ تصور بھی کر لیا جائے کہ ویدیں اور دیگر مذہبی کتب کلام الہامی تھیں۔

لیکن وہ اس دور کے لوگوں کے لیے کار آمد تھیں جس دور کے لوگوں کے لیے یہ نازل  
ہوئی تھیں اور یہ مخصوص لوگوں اور مخصوص دور کے لیے کار آمد تھیں۔

آج کل تمام تر دنیا کے لوگوں بشمول ہندوستان کو محض خدا کے آخری اور حتمی

کلام کی پیروی کرنا ہوگی ..... یعنی قرآن پاک کی پیروی کرنا ہوگی۔ چونکہ سابقہ الہامی

کتب کو دوام حاصل نہ تھا لہذا خدا تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔

آج کل کسی بھی بڑے مذہب کی کوئی بھی الہامی کتاب جس کے بارے میں یہ دعویٰ


کیا جا سکتا ہے کہ وہ کلام الہی تھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے اور اس میں من مرضی کی تبدیلیاں سر انجام دی جا چکی ہیں کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا۔ چونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے لہذا اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

سورة ججر.....سورہ نمبر 15.....آیت نمبر 9

”بے شک ہم نے اتنا رہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس

کے نگہبان ہیں۔“ (القرآن 15:9)



کیا رام اور کرشنا خدا کے پیغمبر ہیں؟

سوال اسلام کے مطابق.....پیغمبر یا نبی دنیا کی ہر ایک قوم میں مبعوث فرمائے گئے تھے.....لہذا ہندوستان میں کون سا پیغمبر مبعوث فرمایا گیا تھا.....کیا ہم رام اور کرشنا کو خدا کے پیغمبر تسلیم کر سکتے ہیں؟

جواب: ہر قوم میں پیغمبر مبعوث فرمائے گئے تھے۔

● قرآن پاک سورہ فاطر.....سورہ نمبر 35.....آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے کہ:

”اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ڈر سانے والا گزر چکا۔“

(القرآن 24:35)

● اس قسم کا پیغام سورہ رعد.....سورہ نمبر 13.....آیت نمبر 7 میں دہرایا گیا ہے کہ:

”تم ڈر سانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی۔“ (القرآن 13:7)

محض چند ایک پیغمبران کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے  
 اللہ تعالیٰ سورۃ النساء..... سورۃ نمبر 4..... آیت نمبر 164 میں فرماتا ہے کہ:  
 ”اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرمائے چکے ہیں اور ان  
 رسولوں کو جس کا ذکر تم سے نہ فرمایا۔“ (القرآن 4:164)

اسی قسم کا پیغام سورۃ مومن..... سورۃ نمبر 40..... آیت نمبر 78 میں بھی  
 دہرایا گیا ہے کہ:  
 ”اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کہ جن میں  
 کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا۔“  
 (القرآن 40:78)

قرآن پاک میں خدا کے کچھ پیغمبران کے اسمائے گرامی درج ہیں  
 قرآن پاک میں محض 25 پیغمبران خدا کے اسمائے گرامی درج ہیں۔ جن  
 میں حضرت آدم علیہ السلام..... حضرت نوح علیہ السلام..... حضرت موئی علیہ  
 السلام..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔  
 1,24,000 سے زائد پیغمبران خدا  
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اس دنیا میں  
 1,24,000 سے زیادہ پیغمبران بھیجے گئے تھے۔

تمام تر سابقہ پیغمبران محض اپنی امت کی ہدایت کے لیے مخصوص تھے  
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیشتر جتنے بھی پیغمبران دنیا میں تشریف  
 لائے وہ محض اپنی امتوں کے لیے مخصوص تھے اور ان کی پیروی ایک مخصوص دور  
 تک کے لیے کارآمد تھی۔

سورة آل عمران ..... سورة نمبر 3 ..... آیت نمبر 49

”اور رسول ہو گا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا۔“

(القرآن 49:3)

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری رسول

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے آخری رسول ہیں ..... نبی

آخر الزماں ہیں۔

سورة احزاب ..... سورة نمبر 33 ..... آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا ہے کہ:

”محمد تمھارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ ہاں اللہ کے

رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔“ (القرآن 40:33)

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا

چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں ..... نبی آخر الزماں

ہیں لہذا ان کو محض مسلمانوں یا عربوں کے لیے رسول بنا کرنے بھیجا گیا تھا بلکہ ان کو تمام

تر انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔

قرآن پاک سورة انبیاء ..... سورة نمبر 21 ..... آیت نمبر 107 میں فرمایا

ہے کہ:

”اور ہم نے تحسین نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔“

(القرآن 107:21)

اس قسم کا پیغام سورة سبا ..... سورة نمبر 34 ..... آیت نمبر 28 میں دہرایا گیا

ہے کہ:

”اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ خوشخبری دیتا اور ڈرستاتا لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔“ (القرآن 28:34)

\* صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

”ہر ایک نبی اپنی امت کے لیے مبعوث فرمایا گیا لیکن مجھے تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔“  
ہندوستان میں کون سا پیغمبر مبعوث فرمایا گیا تھا  
اس سوال کے بارے میں کہ:

”ہندوستان میں کون سا پیغمبر مبعوث فرمایا گیا تھا؟“

اور

”کیا ہم رام اور کرشا کو خدا کے پیغمبر تسلیم کر سکتے ہیں؟“  
یہ عرض ہے کہ قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں فرمایا گیا کہ ہندوستان میں کون سا پیغمبر مبعوث فرمایا گیا تھا۔ چونکہ رام اور کرشا کے نام قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں نہیں پائے جائے لہذا کوئی بھی شخص پورے وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ:

”وہ خدا کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے۔“

کچھ مسلمان بالخصوص کئی مسلم سیاستدان جو ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں..... وہ کہتے ہیں رام علیہ السلام ..... یہ وظیرہ بالکل غلط ہے کیونکہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ اس امر کا کوئی ثبوت مہیا نہیں کرتی کہ وہ خدا کا پیغمبر تھا۔ تاہم کوئی بھی

شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ:

”عین ممکن ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہوں۔“

اگر رام اور کرشا پیغمبر تھے تو پھر بھی آج ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے

اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ رام اور کرشا خدا کے پیغمبر تھے تب یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے مبouth فرمائے گئے تھے اور وہ ایک مخصوص دورانیے تک کے لیے پیغمبر تھے۔ آج تمام تر دنیا میں آباد تمام تر انسانیت کو بشمول ہندوستان..... نبی آخر الزماں، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔

ہندو مت میں اوتار اور پیغام بر

ہندوستان میں پیغمبران خدا کا کوئی نظریہ..... کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ تاہم ان میں اوتار کا تصور..... اوتار کا نظریہ ضرور پایا جاتا ہے..... اوتار سنکرت کی اصطلاح ہے..... اوتار مطلب ہے ”نیچے آنا“ یا ”نیچے نزول ہونا“..... اوکسفورڈ ذکشیری میں (ہندو مت کے حوالے سے) اوتار کے جو معانی بیان کیے گئے ہیں انھیں سادہ اور آسان الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ:

”اوٹار کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جسمانی حالت میں زمین پر  
نزول فرماتا ہے۔“

ہندو مت میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ زمین پر نزول فرماتا ہے کسی جسمانی حالت میں مذہب کو بچانے کی خاطر یا نمونہ پیش کرنے یا انسانیت کے لیے قوانین عطا کرنے کی خاطر..... ویدوں میں کسی بھی جگہ اوتاروں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

ہندوؤں کی مقبول ترین اور ہندو مت میں کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی بھگو دویدی گیتا..... سورۃ نمبر 4..... آیات نمبر 7 اور 8 میں درج ہے کہ:

”جب بھی اور جہاں کہیں بھی مذہب پر عمل درآمد زوال پذیری کا شکار ہوتا ہے اس وقت میں بذات خود نزول فرماتا ہوں۔“

”بد کرداروں کو نیست و نابود کرنے اور مذہب کے قوانین دوبارہ بحال کرنے کے لیے ..... میں بذات خود نمودار ہوتا ہوں.....

ہزاروں برس ..... ہزاروں برس بعد۔“

لہذا بھگو دویدی گیتا کے مطابق ..... خدا اوتار کا روپ دھارتا ہے تاکہ بد کرداروں کو نیست و نابود کرے اور مذہب یا اصولوں کو دوبارہ بحال کرے۔

پرانا کے مطابق کئی سو اوتار ہیں لیکن وشنودس اوتار رکھتا ہے۔

متسیا اوتار (Matsya Avatar) ..... مچھلی کی شکل میں (i)

کرم اوتار (Kurm Avatar) ..... کچھوئے کی شکل میں (ii)

واراہ اوتار (Varah Avatar) ..... سور کی شکل میں (iii)

نرا سیما اوتار (Narasimha Avatar) ..... آدمی اور آدھے شیر کی شکل میں (iv)

واما نا اوتار (Vamana Avatar) ..... برہمن کی شکل میں (v)

پرا شو آرام اوتار (Parashuaram Avatar) ..... پرا شوراما کی شکل میں (vi)

rama اوتار (Rama Avatar) ..... راما کی شکل میں (vii)

کرشا اوتار (Krishna Avatar) ..... کرشا کی شکل میں ..... گیتا کا ہیرہ (viii)

بدھا اوتار (Buddha Avatar) ..... گوم بدھ کی شکل میں (ix)

کالکی اوتار (Kalki Avatar) ..... کالکی کی شکل میں (x)

(رُگ ویدا سمہتی ..... والیم نمبر xii ..... صفحہ نمبر 4309 ..... سوائی سیتا پر اکش

سراس و تی اور سیتا کام و دھیالانک)

یہ تمام ترمذی کتب اپنے قارئین کو بتا رہی ہیں کہ اگرچہ چیزیں اتنی واضح کردی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ سچائی سے دور ہو جاتے ہیں۔

### عقیدہ حلول (Anthropomorphism)

خدا کا انسانی شکل یا انسانی جسم میں ظاہر ہونا

\* خدا کو انسانوں کو سمجھنے کے لیے انسانی شکل اختیار کرنے کی کوئی ضرورت درپیش نہیں ہے۔

بہت سے دیگر مذاہب کبھی کبھار اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا انسانی شکل اختیار کرتا ہے..... وہ اس کے لیے یہ منطق پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قدر پاک اور مقدس ہے کہ وہ انسانی مشکلات..... انسانی خامیاں..... انسانی مشکلات اور انسانی احساسات وغیرہ سے نآشنا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ ایک شخص کو جب چوٹ لگتی ہے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے یا جب وہ کسی تکلیف یا مصیبت میں گرفتار ہوتا کیسا محسوس کرتا ہے وغیرہ۔ وغیرہ۔ لہذا انسانوں کے لیے قوانین مرتب کرنے کی غرض سے وہ زمین پر نزول فرماتا ہے اور انسانی شکل میں نزول فرماتا ہے..... یہ بظاہر ایک اچھی منطق دکھائی دیتی ہے۔

تحلیق کنندہ ہدایتی کتابچہ تیار کرتا ہے

فرض کریں کہ میں ایک شیپ ریکارڈر تیار کرتا ہوں۔ کیا مجھے یہ جانے کے لیے کہ شیپ ریکارڈر کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ بذات خود شیپ ریکارڈر بننا ہوگا۔ میں ایک ہدایتی کتابچہ تیار کروں گا۔ آذیو کیست سننے کی غرض سے کیست داخل

کریں اور پلے کا بٹن دبائیں۔ شیپ ریکارڈر کو بند کرنے کی غرض سے..... بند کرنے والا بٹن دبائیں..... اسے اوپھائی سے نیچے مت گرامیں ورنہ اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے..... اسے پانی میں مت ڈالیں ورنہ یہ برباد ہو جائے گی..... صالح ہو جائے گی۔ میں ایک ہدایتی کتابچہ تحریر کروں گا کہ اس شیپ ریکارڈر کے ضمن میں یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا ہے۔

### قرآن پاک انسانوں کے لیے ہدایتی کتابچہ ہے

اسی طرح ہمارا خدا اور ہمارا تخلیق کننده..... ہمارا اللہ تعالیٰ..... اسے یہ جانتے کے لیے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے انسانی شکل میں زمین پر نزول فرمانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس نے محض ہدایتی کتابچہ جاری کرنا ہے اور انسانوں کے لیے آخری اور حتمی ہدایتی کتاب قرآن پاک ہے۔

انسانوں کو جو کچھ کرنا ہے اور جو کچھ نہیں کرنا وہ سب کچھ اس میں درج ہے۔

### اللہ تعالیٰ پیغمبر ان مبعوث فرماتا ہے

اللہ تعالیٰ کو ہدایتی کتابچہ تحریر کرنے کے لیے بذات خود نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو منتخب کرتا ہے تاکہ وہ اس کا پیغام اس کے دیگر بندوں تک پہنچائے اور اپنے اس منتخب بندے کے ساتھ اونچی سطح پر بذریعہ وحی رابطہ رکھتا ہے۔ یہ منتخب بندے خدا کے پیغمبر ان کہلاتے ہیں۔

### زندگی بعد از موت..... آخرت کی زندگی

\* سورۃ بقرہ..... سورۃ نمبر 2..... آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:

”بِهِلَا تَمْ كَيْوَكَر خَدَا كَمُكَر ہو گے حَالَانَكَه تم مِرَدَه تَحَتَه اس نے تَصْحِين زَنْدَه کیا۔ پَھَر تَصْحِين مَارَے گا پَھَر تَصْحِين دوبارہ زَنْدَه کرَے

گا۔ پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔“

اسلامی نظریے کے تحت انسان اس دنیا میں محض ایک مرتبہ آتا ہے اور جب وہ مرجاتا ہے..... اسے دوبارہ قیامت کے روز اٹھایا جائے گا..... زندہ کیا جائے گا اور اس نے اس دنیا میں جو کام کیے ہوں گے اور جو اعمال سرانجام دیے ہوں گے ان کی جزا اوسرا کے نتیجے میں اسے جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔

\* دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے..... ابدی زندگی کے لیے ایک امتحان ہے۔

سورۃ ملک ..... سورۃ نمبر 67 ..... آیت نمبر 2 میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ ”وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو۔ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔“

اس دنیا میں ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ آخرت کا امتحان ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے ..... اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہم انشاء اللہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے اور انشاء اللہ جنت میں داخل کیے جائیں گے جو ابدی سکون اور راحت کا مقام ہے..... اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کریں گے ..... اس کے احکامات کو خاطر میں نہ لائیں گے ..... نظر انداز کر دیں گے اور اس امتحان میں ناکام ثابت ہوں گے تب ہم خداخواستہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔

یوم قیامت ..... بد لے کا دن

قرآن پاک سورۃ آل عمران ..... سورۃ نمبر 3 ..... آیت نمبر 185 میں فرماتا

ہے کہ:

”ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بد لے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل ہو گیا وہ مراد کو پہنچا اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔“

جنت.....



جنت امن و سکون ..... راحت و آرام کی جگہ ہے ..... عربی میں جنت کے لغوی معانی ہیں ”باغ“ ..... قرآن پاک جنت کے بارے میں مفصل ذکر فرماتا ہے ..... جنت وہ مقام ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ..... دودھ کی نہریں بہتی ہیں ..... شہد کی نہریں بہتی ہیں ..... جنت میں ہر قسم کا پھل موجود ہے ..... جنت میں کسی قسم کا رنج و غم اور تھکان نہ ہوگی نہ ہی کوئی فضول گفتگو سنائی دے گی ..... جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی ..... محض سکون ہی سکون اور راحت ہی راحت ہوگی۔

جہنم



جہنم اذیت کا مقام ہے جہاں پر لوگ ابدی اذیت میں گرفتار ہیں گے ..... زیادہ تر ذکر جہنم کی آگ کے بارے میں کیا گیا ہے ..... وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔

یہ پوز جنم ..... پیدائش نو ..... دوبارہ پیدائش ..... دوسرے جنم کا کوئی چکر نہیں ہے بلکہ زندگی بعد از موت ہے ..... آخرت کی زندگی ہے ..... ابدی زندگی ہے۔

”دوبارہ پیدائش“ کے نظریے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ پوز جنم (Punar Janam) ہے۔ سنسکرت میں پوز یا پونا کے معانی ہیں ”اگلی مرتبہ“ یا ”دوبارہ“ اور جنم کے معانی ہیں ”زندگی“۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پار بار زندگی سے مستفید ہونا۔ ویدوں کے علاوہ ہندوؤں کی دیگر مذہبی کتب میں پوز جنم کے بارے

میں جو حوالے دیے گئے ہیں اگر آخرت کی زندگی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کا مطالعہ کیا جائے بشمول بھگو وید گیتا اور اپنشد..... یہ ہمیں الگی زندگی کے نظریے سے روشناس کرواتے ہیں..... یا دوسرا زندگی..... یا دوسرے جنم سے روشناس کرواتے ہیں لیکن بار بار زندگی سے مستفید ہونے کے نظریے سے روشناس نہیں کرواتے۔

بار بار جنم لینے کا نظریہ وید ک دور کے بعد منظر عام پر آیا تھا۔  
زندگی بعد ازاں موت کا ذکر ویدوں میں بھی آیا ہے۔

\* \* \* \* \*

ویدوں میں سورگ (Swarg) ..... یعنی جنت کا ذکر بھی آیا ہے..... یہ ذکر ویدوں میں کئی ایک مقامات پر آیا ہے بشمول اخبار و ویدا..... کتاب نمبر 4 ..... باب نمبر 34 ..... آیت نمبر 6 (دیوی چند)

”اس میں مکھن، شہد، دودھ، آب مقرٹ اور دہی کی نہریں بہتی ہیں جو راحت و سکون میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ مختلف طریقوں سے روح کو تقویت پہنچاتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔“

ہندوؤں کی درج ذیل کتب میں بھی جنت کا ذکر آیا ہے۔

اخبار ویدا ..... کتاب نمبر 4 ..... سورۃ نمبر 34 ..... آیت نمبر 6 (وید پر ۱)

اخبار ویدا ..... کتاب نمبر 4 ..... سورۃ نمبر 34 ..... آیت نمبر 2

اخبار ویدا ..... کتاب نمبر 2 ..... سورۃ نمبر 34 ..... آیت نمبر 5

اخبار ویدا ..... کتاب نمبر 6 ..... سورۃ نمبر 122 ..... آیت نمبر 3

رگ ویدا ..... کتاب نمبر 10 ..... سورۃ نمبر 95 ..... آیت نمبر 18

\* \* \* \* \*

ویدوں میں زکھ (جہنم) کا ذکر

زکھ یا جہنم کا ذکر ویدوں میں بھی آیا ہے اور اس کے لیے سنسکرت کا جو لفظ

استعمال کیا گیا ہے وہ ”زر اکس تھامن“ (Narakas Thanam) رُگ ویدا..... کتاب نمبر 4 ..... سورۃ نمبر 5 ..... آیت نمبر میں بیان کیا گیا ہے کہ ”جو خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور قوانین توڑتے ہیں وہ آگ میں جھوکنے کے جائیں گے۔“

### تقدیر

• تقدیر کا نظریہ ..... اسلام میں قدر قدر تقدیر کا نظریہ ہے۔ انسانی زندگی کے کئی ایک پہلو ہمارے خالق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پہلے سے مقرر رکھے ہیں ..... مثلاً کوئی انسان کب اور کہاں پیدا ہوگا ..... کب اور کہاں جنم لے گا ..... وہ کن حالات کے تحت جنم لے گا ..... وہ کتنی دیر تک اس دنیا میں حیات رہے گا اور کہاں پر اس کی موت واقع ہوگی۔

• مختلف افراد کے مابین مختلف امتیازات کا منطقی نظریہ ہندومت میں دو افراد کے درمیان پیدائشی فرق ..... مثال کے طور پر ایک بچہ صحبت مدد پیدا ہوتا ہے جبکہ دوسرا بچہ معدود پیدا ہوتا ہے ..... ایک بچہ ایک امیر گھرانے میں جنم لیتا ہے جبکہ دوسرا بچہ ایک غریب گھرانے میں جنم لیتا ہے ..... پہلے جنم کے اعمال پر مخصر ہوتا ہے۔ دوبارہ پیدائش ..... دوسرے جنم کا کوئی سائنس یا منطقی ثبوت موجود نہیں ہے۔

• اسلامی نظریے کے تحت مختلف افراد کے درمیان ان امتیازات کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ ملک ..... سورۃ نمبر 67 ..... آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:

”وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہوتی میں

کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔“  
یہ دنیاوی زندگی جو ہم بسر کرتے ہیں وہ آخرت کا امتحان ہے۔

قرآن پاک میں کئی ایک آیات موجود ہیں جو واضح طور پر یہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہماری آزمائش فرماتا ہے۔

\* سورۃ البقرہ.....سورۃ نمبر 2.....آیت نمبر 214 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:

”کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ابھی تم پر اگلوں کی سی رو داد نہ آئی۔ پہنچی انھیں سختی اور شدت اور ہلا ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔“

\* قرآن پاک سورۃ عنكبوت.....سورۃ نمبر 29.....آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے کہ:

”کیا لوگ اس محمدؐ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔“

\* قرآن پاک سورۃ انبیاء.....سورۃ نمبر 21.....آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے کہ ”ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو اور ہماری ہر طرف تصحیح لوث کر آتا ہے۔“

\* قرآن پاک سورۃ البقرہ.....سورۃ نمبر 2.....آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے کہ ”اور ضرور ہم تصحیح آزمائیں گے کچھ ڈڑ اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور چلپوں کی کمی سے اور خوش خبری سنانا ان صبر

والوں کو۔“

سورة انفال..... سورۃ نمبر 8..... آیت نمبر 28 میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ:

”اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب قتنہ ہیں اور

اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔“

ہندومت میں زندگی بعد ازاں موت

ہندومت میں دوسرے جنم کا نظریہ ..... از سرنو تجسم ..... نیا جسم حاصل کرنا یا

روح کا تناخ واقع ہونا ..... روح کا دوسرے قلب میں ڈھلنا۔

ہندومت پیدائش کے ایک تسلسل پر یقین رکھتا ہے ..... موت اور نیا جنم .....

جس کو سارا (Samsara) کہا جاتا ہے۔ سمارا یا نیا جنم از سرنو تجسم

(نیا جسم حاصل کرنے) کا نظریہ کہلاتا ہے یا روح کے تناخ (روح کا

دوسرے قلب میں ڈھلنا) کا نظریہ کہلاتا ہے اور یہ ہندومت کا بنیادی

عقیدہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق ایک انسان اور دوسرے انسان میں جو

فرق پایا جاتا ہے حتیٰ کہ پیدائشی فرق مثلاً ایک بچہ صحبت مند پیدا ہوتا ہے اور

ایک بچہ معدور یا اندرھا پیدا ہوتا ہے ..... ایسا اپنے کرما کی بنا پر ہوتا ہے .....

یعنی ان اعمال کی بنا پر ہوتا ہے جو اس نے گزشتہ جنم میں سر انجام دیے

ہوتے ہیں۔ چونکہ تمام تر اعمال اس زندگی میں بار آور نہیں ہو سکتے ..... اس

زندگی میں ان کا پھل نہیں مل سکتا ..... لہذا ایک اور جنم کی ضرورت در پیش

ہوتی ہے۔

یہ نظریہ اپنہ ..... حصہ چہارم ..... سورۃ نمبر 4 ..... آیت نمبر میں بیان کیا گیا

ہے کہ:

”جس طرح ایک تسلی ایک پھول سے رس چوں کر دوسراے پھول  
کا رخ کرتی ہے اسی طرح روح اپنے جسم سے نکل کر ایک نئے  
جنم میں وجود پذیر ہوتی ہے۔“

### کرما (Karma) \*

کرما سے مراد ہے عمل..... عمل یا سرگرمی اور یہ نہ صرف ان اعمال کا احاطہ  
کرتا ہے جو جسم سرانجام دیتا ہے بلکہ ان اعمال کا احاطہ بھی کرتا ہے جو ذہن سرانجام  
دیتا ہے۔ کرما درحقیقت عمل اور رد عمل ہے۔ اس کو اس مجاورے کے تحت واضح کیا گیا  
ہے کہ:

”جو بودا گے وہی کاٹو گے۔“

ایک کسان گندم بوکر چاولوں کے حصول کی امید نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہر  
ایک اچھی سوچ یا اچھا کام اسی قسم کے عمل کا مقاضی ہوتا ہے جو ہماری آئندہ زندگی پر  
اثر انداز ہوتا ہے۔ ناقص سوچ اور برے کام ہمیں نقصان سے دوچار کرنے کے لیے  
واپس آتے ہیں..... اس زندگی میں یا آئندہ زندگی میں۔

### دھرم..... نیک اعمال \*

دھرم سے مراد نیک اعمال..... نیک ذمہ داریاں ہیں۔ ایک فرد کے لیے کیا  
بہتر ہے..... ایک خاندان کے لیے کیا بہتر ہے..... ایک گروہ یا ایک برادری کے لیے  
کیا بہتر ہے..... اور دنیا کے لیے کیا بہتر ہے..... یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔  
اچھی کرما زندگی کے حصول کے لیے دھرم کے عین مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے و گرہن  
اس کا نتیجہ برے کرما کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ دھرم موجودہ زندگی پر اثر انداز ہونے  
کے علاوہ مستقبل کی زندگی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔

### مکشا (Moksha) ..... دوبارہ جنم کے تسلسل سے ۔۔۔ ادی \*

مکشا کا مطلب ہے دوبارہ جنم کے تسلسل سے آزادی ..... یعنی سمسارا۔ ہر ایک ہندو کا قطعی مقصد یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن دوبارہ جنم کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور ان کو دوبارہ جنم نصیب نہ ہوگا۔ یہ محض اس وقت ممکن ہوگا جبکہ کوئی کرما موجود نہ ہوگا جس کی بنا پر کسی فرد کو نیا جنم بخشنا جائے ..... یعنی اپنا اچھا اور برا کرما کھو بیٹھتا ہے۔

\* دوبارہ پیدائش کا ذکر دیدوں میں نہیں ہے

دوبارہ جنم کا نظریہ کسی بھی دیدا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ روحوں کے لیے جسم حاصل کرنے کا نظریہ موجود نہیں ہے۔

سوال: اگر خدا انصاف پسند ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھ بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں جبکہ کچھ بچے نقصان لیے پیدا ہوتے ہیں ..... مثلاً گونگے اور بہرے ..... کچھ بچے امیر گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جبکہ کچھ بچے غریب گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں؟

جواب:

\* یہ زندگی آخرت کا امتحان ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ ملک ..... سورۃ نمبر 67 ..... آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا گیا ہے۔

\* اللہ تعالیٰ اپنے مختلف بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے ..... ان کی آزمائش مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔

ہر برس امتحانی پر چہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مختلف بندوں کی آزمائش مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ اپنے کچھ بندوں کو وہ صحت کی دولت سے نوازتا ہے اور کچھ بندوں کو مذدور پیدا فرماتا ہے۔ اپنے کچھ بندوں کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور کچھ بندوں کو غربت عطا کرتا ہے۔

\* فیصلہ اس امتحان کی مشکلات کے پیش نظر کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو سہولتیں اور جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں انھیں سہولتوں اور خصوصیات کے تناظر میں فیصلہ فرمایا جائے گا۔ اگر امتحان مشکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے وقت نرم رو یہ اختیار فرمائیں گے اور اگر امتحان آسان ہوا تب بھی فیصلہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ نرم رو یہ اختیار فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک غریب بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور جہاں تک زکوٰۃ ادا کرنے کا تعلق ہے اس سلسلے میں اسے پورے نمبر ملیں گے۔ دوسری طرف ایک امیر بندے پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ بہت سے امیر لوگ اس فرض سے سبد و ش نہیں ہوتے یا حقیقی زکوٰۃ سے کم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لہذا جہاں تک زکوٰۃ ادا کرنے کا تعلق ہے تو وہ کم نمبر حاصل کریں گے۔

\* اللہ تعالیٰ کچھ بچوں کو پیدائشی نقائص کے ہمراہ اس دنیا میں بھیجتا ہے..... کچھ پچ گو گئے اور بہرے پیدا ہوتے ہیں..... کچھ پچ دیگر معدود ری لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اس نفس یا اس معدود ری کے لیے نوزائیدہ بچہ ذمہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کا امتحان لے رہا ہوتا ہو کہ کیا وہ اس سانحے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ انفال ..... سورۃ نمبر 8 ..... آیت نمبر 28 میں بیان فرماتا ہے۔

”اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب قتنہ ہے۔“

سوال: ہندو پنڈت اور مفکرین اس امر سے اتفاق کرتے ہیں کہ ویدوں اور دیگر مذہبی ہندو کتب میں بتوں کی پوجا کی ممانعت کی گئی ہے۔ لیکن ابتداء میں چونکہ ذہن

پختہ کار نہیں ہوتا تو عبادت اور پوجا پاٹ کے دوران توجہ مرکوز کرنے کی غرض سے ایک بت درکار ہوتا ہے۔ لیکن جب ذہن شعور کی بلند سطح پر پہنچ جاتا ہے تو توجہ مرکوز کرنے کی غرض سے بت کی ضرورت درپیش نہیں ہوتی۔

جواب: اگر شخص اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے ابتدائی مدرج میں بت درکار ہوتا ہے اور مابعد جب ذہن شعور کی بلند تر سطح پر پہنچ جاتا ہے اس وقت بت درکار نہیں ہوتا تب میں یہ کہوں گا کہ مسلمان پہلے ہی شعور کی بلند تر سطح حاصل کر چکے ہیں کیونکہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کسی بت یا مجھ سے کی ضرورت درپیش نہیں ہوتی۔

\* آسمان پر گھن گرج کیوں ہوتی ہے۔

جب میں انٹریشنل ریسرچ فاؤنڈیشن میں ایک سو ای کے ساتھ مصروف گفتگو تھا تو اس سو ای نے بتایا کہ جب ہمارا بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ:  
”آسمان پر گھن گرج کیوں ہوتی ہے؟“  
تو ہم جواب دیتے ہیں کہ:  
”اماں چکی پیس رہی ہے۔“

یعنی آسمانوں پر اماں (دادی اماں) آٹا پیس رہی ہے اور چونکہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ سمجھ نہیں سکتا..... بالکل اسی طرح ابتدائی مدرج میں لوگوں کو توجہ مرکوز کرنے کی خاطر بت کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔

اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ اسلام وقت گزاری کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی عادت فراہم نہیں کرتا۔ میں کبھی بھی اپنے بچے کو ایسا غلط جواب نہیں دوں گا کیونکہ مابعد بچہ جب شعور کی منازل طے کرتا ہوا آسمان پر بادلوں کی گھن گرج کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے گا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچے کچھ مشکل

چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے تب آپ اس کو آسان اور سادہ زبان میں بھی جواب دے سکتے ہیں اور بچے کو کبھی بھی غلط یا جھوٹ پر مبنی جواب نہیں دینا چاہیے۔ اگر بچے کے کسی سوال کا جواب آپ کو نہ بھی آتا ہو تو آپ میں اتنی جرأت موجود ہونی چاہیے کہ آپ بچ کا اظہار کرتے ہوئے بچے سے کہہ سکیں کہ:

”میں نہیں جانتا۔“

اگرچہ کچھ بچے اس جواب سے مطمئن نہ ہوں گے لیکن آپ کو بہر حال بچ بولنا چاہیے..... اگر یہی جواب میرے بچے کو دیا جائے تو وہ کہے گا کہ:

”آپ کو کیوں میرے سوال کا جواب نہیں آتا۔“

لہذا آپ کا یہ فرض ہو گا کہ آپ اپنی قابلیت بھی بڑھائیں اور اپنے بچے کی قابلیت بھی بڑھائیں۔

• وہ بچے جو اول جماعت میں اس امر پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے کہ 2 جمع 2..... چار ہوتے ہیں ( $2 + 2 = 4$ ) بت درکار رکھتے ہیں وہ جماعت اول سے لے کر جماعت دهم تک یہی عمل درآمد درکار رکھیں گے)

کچھ پنڈت پوچا پاٹ کے اس نظریے سے مجھے قائل کرنے کی خاطر یہ کہتے ہیں کہ جماعت اول میں بچے کو یہ بنیادی سبق دیا جاتا ہے کہ ایک بت کی مدد سے اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے خدا کی پوچا کی جائے لیکن مابعد جب وہ اپنی گرجوایشن مکمل کر لیتا ہے تب اسے خدا کی پوچا کرنے کی غرض سے اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے کسی بت کی ضرورت درپیش نہ ہوگی۔

ایک اہم حقیقت جو زیر غور رکھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مخصوص مضمون کی بنیادیں مضبوط ہوں گی تب ہی مستقبل میں اس مضمون میں سبقت حاصل کرنے کی امید کی جاسکتی ہے..... مثال کے طور پر جماعت اول کا ریاضی کا استاد طبلاء کو یہ درس دیتا ہے دو جمع دو چار ہوتے ہیں..... قطع نظر اس امر کے کہ طالب علم

اسکول پاس کرتا ہے..... یا گریجوائیشن پاس کرتا ہے..... یا پی انج ڈی کا امتحان پاس کرتا ہے..... ریاضی میں دو جمع دو کی بنیادیں وہی رہیں گی..... اور دو جمع دو پانچ یا چھ کبھی نہیں ہوگا۔ بڑی جماعتوں میں طلاء الجراء..... ٹریکنومیٹری اور لالگ ارٹھ ازم کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں لیکن جمع کی بنیاد ہنوز وہی رہے گی۔ اگر کلاس اول کا استاد بذات خود غلط بنیادوں کا درس دیتا ہے..... وہ کیسے امید کر سکتا ہے کہ مستقبل میں بچے اس مضمون میں سبقت حاصل کریں؟

تصور خدا کے بارے میں ویدوں کا یہ بنیادی اصول ہے کہ خدا کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ لہذا یہ حقیقت جاننے کے بعد بھی مفکرین لوگوں کو غلط عمل اختیار کرنے پر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں۔

کیا آپ اپنے بچے کو جو جماعت اول میں زیر تعلیم ہے یہ بتائیں گے کہ دو جمع دو چار نہیں ہوتے بلکہ پانچ یا چھ ہوتے ہیں اور اس کو حقیقت اس وقت بتاتے ہیں جب وہ اسکول کا دور ختم کر لیتا ہے۔ درحقیقت اگر وہ کوئی غلطی کرے تو آپ اس کی غلطی کی اصلاح کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ دو جمع دو چار ہوتا ہے اور یہ انتظار نہیں کریں گے کہ وہ گریجوائیشن کرے تب آپ اسے بتائیں۔ اگر آپ ابتدائی مرحل میں اس کی تصحیح سرانجام نہ دیں گے تو آپ اس کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیں گے۔

سوال: بہت سے غیر مسلم مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تب مسلمان اپنی نماز کے دوران کیوں کعبہ کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں؟

جواب:

کعبہ قبلہ شریف ہے..... ایک سمت ہے  
نماز کے دوران مسلمان کعبہ شریف کی پوجا نہیں کرتے بلکہ کعبہ شریف قبلہ

شریف ہے..... وہ ایک سمت ہے جس طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں..... اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کے سامنے نہیں جھکتے..... اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بجدہ نہیں کرتے۔

اسلام اتفاق و اتحاد پر یقین رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسلمان نماز ادا کرنا چاہیں..... کچھ مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شمال کی جانب منہ کر کے نماز ادا کریں گے..... کچھ مسلمان یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مشرق کی جانب منہ کر نماز ادا کریں گے..... لہذا اتفاق و اتحاد قائم رکھنے کی غرض سے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ محض ایک ہی سمت کی جانب منہ کر کے نماز ادا کریں..... یعنی کعبہ شریف کی جانب منہ کر کے نماز ادا کریں۔

### کعبہ شریف زمین کا مرکز ہے

سب سے پہلے مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بنایا تھا اور کعبہ شریف اس کا مرکز تھا..... اس کے درمیان میں واقع تھا۔ مابعد اہل مغرب نے بھی دنیا کے نقشے بنائے لیکن کعبہ شریف دنیا کے نقشے میں دنیا کا مرکز ہی رہا۔

کعبہ شریف کے گرد طواف خدا کے ایک ہونے کا اظہار ہے

جب مسلمان مکہ شریف میں واقع مسجد حرم میں جاتے ہیں..... ہم کعبہ شریف کے گرد طواف کرتے ہیں..... اسے طواف کعبہ کہا جاتا ہے..... یعنی کعبہ شریف کے گرد چکر لگاتے ہیں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ چونکہ ہر ایک دائرہ ایک مرکز رکھتا ہے..... بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے..... اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

انسانوں کے لیے گوشت خوری  
جائے ہے یا ناجائز؟

ایک مناظرہ

ڈاکٹر ذاکر نائک  
مسٹر شمی بھائی زاویری

(ڈاکٹر محمد)


شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان انبھائی رحم کرنے والا ہے۔

مسڑوائی۔ پی۔ تریویدی..... اس شام کے مہمان خصوصی..... مسٹر راشی بھائی زاویری..... ڈاکٹر ڈاکٹر ناگ۔ مسٹر چن بھائی وہرہ..... مسٹر دھن راج سلیچا..... معزز مہمان گرامی..... خواتین و حضرات..... السلام علیکم..... آپ پر سلامتی ہو۔

منظیمین کی جانب سے..... ہندوستانی سبزی خور کا گنگرس..... اسلامک

ریسرچ فاؤنڈیشن اور رشبھ فاؤنڈیشن..... میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں..... آج کے مثالی پروگرام..... آج کی مثالی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں..... آج کے موضوع پر ایک عوامی مباحثے میں خوش آمدید کہتا ہوں..... آج کے مباحثے کا موضوع یہ ہے کہ:

”کیا انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز ہے؟“



یہ مباحثہ ایک دوستانہ ماحول میں ہو رہا ہے..... اس مباحثے میں شریک تمام تر احباب کے مابین ہم آہنگی اور دوستانہ ماحول پایا جاتا ہے۔ میں..... ڈاکٹر محمد ناگ..... میں اس مباحثے کے کوآرڈی نیٹ کے فرائض سرانجام دوں گا..... لہذا میں ایک غیر جانبدار فرد کا کردار ادا کروں گا..... یہ میرا ایک مقدس فرض ہے کہ میں اس اجلاس کو ایک مناسب اور منصفانہ ماحول مہیا کروں اور یہ ایک مناسب اور منصفانہ ماحول میں جاری و ساری رہے۔ لہذا میں اپنے دونوں مقررین کے علاوہ سامعین سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس تقریب کا وقار بحال رکھیں اور ایک صحت مند ماحول اس مباحثے کے لیے مہیا کریں۔ اب ہم ہندوستانی سبزی خور کا گنگرس کے سابق صدر مسٹر جیانتی لال، آردو شی کا استقبال کرتے ہوئے انھیں آج کی شام کے مہمان

خصوصی کو متعارف کروانے کے فرائض سونپیں گے۔ آج کے مہمان خصوصی مسٹر داٹے۔ پی۔ تریویدی ہیں۔

(تالیاں)

(مسٹرجیانتی لعل دوشی)

مسٹر داٹے۔ پی۔ تریویدی سپریم کورٹ آف انڈیا کے ایک سینئر ایڈوکٹ ہیں اور ممبئی کے ایک نامور فلکس مہر بھی ہیں۔ معاشی میدان میں بھی ان کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ وہ انڈین مرکنٹائل چیمبرز کے سابق صدر ہیں اور دیگر کئی ایک اداروں ..... ٹریئی اور انڈسٹری باؤنڈی کے فعال رکن بھی ہیں ..... پیشہ وارانہ میدان میں ..... وہ چیمبر آف انفارمیشن میکنالوجی کنسٹیٹیشن کے صدر تھے اور انفارمیشن میکنالوجی ٹریبوئن کے علاوہ بار ایسوی ایشن کے نائب صدر تھے ..... سیاسی میدان میں وہ مدیر پر ادیش کانگرس کمیٹی بی آر سی سی کے ٹریئیور ہیں۔ وہ بہت سی پبلک لمبینڈ کمپنیوں کے چیئرمین اور ڈائریکٹر بھی ہیں ..... تعلیمی میدان میں وہ بھی یونیورسٹی سے مسلک رہے ہیں۔ اُن کے کئی ایک آرٹیکل مختلف اخبارات اور رسائل کی زینت بننے ہیں۔ انھوں نے روٹری لائے کلب ..... ایئر انڈیا ..... اور دور درشن سے خطابات بھی کیے ہیں ..... شکر یہ



(ڈاکٹر محمد)

اب مسٹر دھن راج سلیچا ..... صدر رُشْحَہ فاؤنڈیشن ہمارے معزز مہمان خصوصی کا استقبال کرتے ہوئے انھیں ہار پہنائیں گے۔

(تالیاں)



اب ہمارے مہمان خصوصی مشر وائی۔ پی۔ تریویڈی ہمارے سامعین سے  
خطاب فرمائیں گے جو آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں..... مشر وائی۔ پی۔ تریویڈی  
(مشر تریویڈی)

ڈاکٹر ڈاکٹر ناٹک..... مشر راشی زاویری..... ڈاکٹر محمد ناٹک..... ڈاکٹر دن  
راج سلیچا..... چن لعل وہرہ اور دوستو!

بیشتر اس کے کہ میں اپنا تعارفی خطاب پیش کروں ..... مجھے بتایا گیا تھا.....  
اور میرا خیال ہے کہ مجھے یہ دہرا دینا چاہیے ..... اور پورے وثوق کے ساتھ کہنا  
چاہیے ..... ہماری تہذیب کا ایک عظیم ترین دوست اور عظیم ترین دشمن ..... موبائل فون  
ہے۔ اور وہ لوگ جو اس فون کے حامل ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک عظیم دوست ہے  
بشرطیکہ آپ اس کی واقعی ضرورت محسوس کریں ..... شدید ضرورت محسوس کریں ..... اور  
جب آپ کسی اجلاس میں مصروف ہوں ..... یہ آپ کا عظیم ترین دشمن ہے ..... لہذا  
میں ان احباب سے درخواست کروں گا جن کے پاس ایسے فون موجود ہیں ..... براہ  
مہربانی اپنے فون بند کر دیں اور دوسروں کے لیے خلل اندازی کا باعث نہ بنیں .....  
کیونکہ یہ سوچ بچار کے رجحان پر اثر انداز ہوتا ہے ..... ان کی سوچ بچار پر اثر انداز  
ہوتا ہے جو خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے خیالات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جو  
اس خطاب سے مستفید ہو رہے ہوں اور دیگر افراد کو بھی اپنا نشانہ بناتا ہے۔

دوستو! میں تمام ترقیرین اور آپ سب احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں .....  
اس مباحثے میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں جو ایک صحت مند ماحول میں پروان  
چڑھ رہا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے یہ مباحثہ دیگر مباحثوں کے لیے ایک بہتر پیش خیمه  
ثابت ہو گا جو مستقبل قریب میں سرانجام پائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مباحثہ اس  
جیسے دیگر مباحثوں کے آغاز کا سبب ثابت ہو گا ..... یہ مباحثہ ..... گفت و شنید یا آپ

اس کو کچھ بھی کہہ لیں غالباً ایک بہترین روایت قائم کرنے کا باعث ثابت ہوگا.....  
 ہندو تہذیب اور اسلام کے لیے ..... ہمارے مذہب اور ہماری تاریخ میں ایسے  
 مناظروں کی مثال ملتی ہے جو کہ جنک (Jañak) جیسے بادشاہوں کے دربار میں منعقد  
 ہوتے تھے..... جہاں پر مختلف خیالات کے حامل لوگ..... کیونکہ ہندوستانی کبھی بھی  
 یکساں خیالات کے حامل نہیں رہے..... کئی ایک افکار کے تحت خدا کی ذات کا اقرار  
 نہیں کیا جاتا تھا..... لہذا بادشاہ جنک ان کو باہم اکھا کرتا تھا اور ان کو مباحثے پر اکساتا  
 تھا..... وہ کسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا بلکہ ان کو اظہار خیال کی دعوت  
 دیتا تھا..... اور مابعد اس مباحثے کے نتائج حاضرین پر چھوڑ دیتا تھا کہ وہ اپنے ذہن  
 بذات خود آمادہ کریں۔ لہذا ہندوستانی سرزی میں پر یہ ہمارے ہندو مذہب کی ایک  
 روایت تھی..... اور یہ اسلام کی بھی ایک روایت رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ  
 وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آنے والے برسوں کے دوران.....  
 اسلام ایک مذہب تھا..... عرب کی سرزی میں وہ سرزی تھی جو منطق، ریاضی اور علم  
 فلکیات وغیرہ سیکھنے کی آمادگاہ تھی ان تمام امور پر مباحثے ہوتے تھے اور عرب کے عظیم  
 مفکرین اپنے افکار قائم کرتے تھے..... تحقیق کرتے تھے اور اس علم کو اہل مغرب تک  
 پہنچاتے تھے۔ میرے خیال میں یورپ کی نشأة ثانیہ کا ماغذ بھی ان مفکرین کے افکار  
 تھے..... جو اپنے دور کے عظیم مفکر تھے۔ عربوں نے سائنس میکنالوجی، ریاضی، فلسفہ  
 اور منطق کے میدان میں بڑے معمر کے مارے تھے..... اسلام کی یہ روایت آج تک  
 قائم ہے کہ وہ آزادانہ سوچ کا موقع فراہم کرتا ہے۔

مغل شہنشاہ اکبر..... وہ بھی تمام مذاہب کے لوگوں کو طلب کرتا تھا..... حتیٰ  
 کہ عیسائیوں کو بھی جو اس وقت موجود تھے..... وہ ہندوستان کے ساحل پر اترے  
 تھے..... ان کو بھی طلب کیا جاتا تھا اور ان کو بھی موقع دیا تھا کہ وہ اس بارے میں

اظہار کریں کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے۔ لہذا یہ صحت مند مباحثے..... صحت مند باحول میں پروان چڑھنے والے مباحثے کسی بھی تہذیب، ثقافت اور قوت برداشت کے حامل معاشرے کی ترقی کے لیے از حد ضروری ہیں۔

ڈاکٹر وہرہ نے کہا کہ وہ غیر جانبدار ہے..... میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ..... اسے بھی بتانا چاہتا ہوں ..... اور آپ سب احباب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی غیر جانبدار ہوں ..... اگر میں غیر جانبدار نہ ہوتا تو مجھے کبھی بھی مہمان خصوصی نہ بنایا جاتا ..... اور میں اس موضوع پر کوئی حصی تبصرہ پیش کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا ..... لیکن ایک بات ..... میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا..... اس کو میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا کہ وہ تمام تر جانور ..... فطری طور پر جو گھاس خور واقع ہوئے ہیں ..... وہ جانور جو گھاس پھوس اور پتوں کو اپنی غذا بناتے ہیں وہ ہموار دانتوں کے حامل ہوتے ہیں ..... نوکدار دانتوں کے حامل نہیں ہوتے ..... تمام وہ جانور جو گوشت خور ہیں ..... وہ نوکدار دانتوں کے حامل ہوتے ہیں ..... انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو دونوں اقسام کے دانتوں کی حامل ہے ..... یعنی ہموار اور نوکدار دونوں اقسام کے دانتوں کی حامل ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہو کہ فطرت چاہتی ہو کہ یہ مخلوق قائم دائم رہے ..... فطرت یہ سوچتی ہو کہ یہ مخلوق ..... یعنی انسان ..... اہم ترین مخلوق ہے اور اس کو دنیا کو رونق بخشنے کے لیے قائم رہنا چاہیے ..... ان کو دنیا میں حصہ بٹانا چاہیے ..... ان کو میرا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے ..... لہذا فطرت شاید یہ چاہتی تھی کہ یہ مخلوق یعنی حضرت انسان ہر طرح کے حالات کے تحت زندہ وسلامت رہ سکے۔ اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ ابتدائی دور کا انسان گوشت پر ہی گزارہ کرتا تھا ..... اس وقت زراعت کا رواج نہ تھا بلکہ زراعت ابھی متعارف ہی نہیں ہوئی تھی ..... جوں جوں تہذیب ترقی کرتی گئی ..... اپنے ارتقا کی منازل طے کرتی گئی .....

لوگ زراعت کی جانب متوجہ ہوئے..... اس کے بعد کچھ لوگ بزری خور بن گئے اور کچھ گوشت خوری پر قائم رہے..... اور آج کل کے بہت سے گوشت خور حضرات بزری خوری بھی کرتے ہیں اور وہ بزری خوری کو بھی اپنی غذا کا ایک جزو تصور کرتے ہیں..... میرا خیال ہے کہ جب ہم اس پہلو پر بات کرتے ہیں کہ کیا اس کی اجازت ہے یا یہ منوع ہے..... ہم مذہب کی جانب سے اس کی اجازت یا ممانعت کی بات کر رہے ہوتے ہیں..... اس ایک پہلو پر ڈاکٹر نائک..... میں شاید آپ سے اختلاف کرنا پسند کروں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مذہب کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ:

”ہمیں کیا کچھ کھانا چاہیے اور کیا کچھ نہیں کھانا چاہیے۔“

مذہب کو ہماری روح کو پاکیزہ کرنا چاہیے..... ہمارے ضمیر کو پارسا بناتا چاہیے..... اچھے عمل کی تلقین کرنی چاہیے..... ہمیں اس راستے پر چلانا چاہیے جو راستہ خدا کی طرف جاتا ہے..... اور ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے..... یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ڈاکٹروں کو حل کرنا چاہیے..... ڈاکٹروں کو بتانا چاہیے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے..... غذائی ماہرین کو ہمیں بتانا چاہیے..... یہ ہمارے مذہب کا کام نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ:

”تمھیں پیاز نہیں کھانا چاہیے..... تمھیں اور کنکن کھانا چاہیے۔“

یہ اسی باتیں ہیں جو غذائی ماہرین کو بتانی چاہیں کہ یہ چیز وہ چیز ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے..... یہ آپ کی بقا کے لیے بہت اچھی ہے..... یہ بیماریوں کے خلاف آپ کی قوت دفاعت بڑھانے کے لیے بہت اچھی ہے..... آپ کو اس چیز کو ضرور استعمال کرنا چاہیے..... اپنی خوراک کا حصہ بناانا چاہیے..... کیونکہ یہ موضوع آج کل کی جدید سائنس کا موضوع ہے..... ہم نے آگے بڑھنا..... مزید ترقی کرنی ہے..... اور اپنی اگلی منزل کی جانب دیکھنا ہے..... ہم 21 ویں صدی

میں داخل ہونے کے قریب ہیں..... ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں..... آج میں ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا..... یہ ایک عطاٹی ماہر کی پیشین گوئی تھی..... وہ عطاٹی ماہر اس سوچ کا حامل تھا کہ یہ مخصوص ملک..... جو تین اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے..... یہ ملک دنیا کا چوٹی کا ملک بن جائے گا اور ہم دنیا کی چوٹی کی طرف جا رہے ہیں..... ایک عالمی طاقت بن رہے ہیں..... اپنے آپ کو کچھ فرسودہ نظریات کا پابند کرتے ہوئے۔ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے..... آگے بڑھنا ہے..... اگر ہم نے بطور ایک قوم اپنا ایک مقام پیدا کرنا ہے..... اگر ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو ہمیں فرسودہ نظریات سے دست بردار ہونا ہوگا..... جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کو ایک دوسرے کے نزدیک آتا ہوگا..... اس طرح وہ 21 دین صدی کے راہنماء کے طور پر ابھر سکتے ہیں اور اگر ایسا ممکن ہو جائے تب میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کروں گا کہ ہم ان فرسودہ نظریات کو بالائے طاق رکھ دیں گے..... ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے..... یہ ڈاکٹروں کو بتانا چاہیے۔ اگر سائنس کی ایک نئی دریافت سامنے آتی ہے کہ ٹماٹر سرطان کے امراض سے بچانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے اور اگر کوئی مجھے یہ پوچھتے کہ کیا آپ ٹماٹر کھائیں گے؟..... میرا جواب یہی ہوگا کہ مجھے ٹماٹر کھانے چاہیں کیونکہ سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ سرطان کے امراض سے بچاؤ میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں قطع نظر اس امر کے کہ میرا نہ ہب ٹماٹر کھانے یا نہ کھانے کے بارے میں کیا کہتا ہے..... لہذا میرا خیال ہے کہ ہمیں سائنس دانوں سے باہم رابطہ رہنا چاہیے اور ان کی تحقیقات کی روشنی میں اپنا لائچہ عمل طے کرنا چاہیے..... ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جدید ذہن کے حامل بنیں..... ایک سائنسی نقطہ نظر اپنانے کے حال بنیں..... تب میرا خیال ہے کہ آج نہیں تو کل تمام دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی.....

ان تعارفی کلمات کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں غیر جانبدار ہوں اور میں فاضل احباب کے نقطہ ہائے نظر سننا پسند کروں گا جنہوں نے اس عنوان پر تحقیقات سرانجام دی ہیں۔

(ڈاکٹر محمد)

شگر یہ مسٹر تریویدی ..... اب ہم ہر ایک مقرر کا مختصر تعارف پیش کریں گے اور اس کے بعد بقایا پروگرام کی جانب بڑھیں گے۔

مسٹر چن بھائی وہرہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ..... وہ ہندوستانی سبزی خوروں کی کانگرس کے سینئر نائب صدر ہیں ..... وہ مسٹر راشی بھائی زیویری کو متعارف کروائیں گے۔

(مسٹر چن بھائی وہرہ)

آج مجھے ہندوستانی سبزی خوروں کی کانگرس کے صدر شری راشی بھائی زاویری کو متعارف کرواتے ہوئے دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ عوامی مباحثہ بہت ہی دلچسپ ثابت ہو گا۔ ہمارے مہماں خصوصی کی تعارفی تقریر سے بھی یہ بات عیال ہے کہ یہ مباحثہ ایک دلچسپ مباحثہ ثابت ہو گا ..... لہذا آئیے ہم ایک بہترین مباحثے کی امید واثق رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔

راشی بھائی زاویری پیشے کے اعتبار سے چارڑڈا کاؤنٹنگ ہیں ..... ان کی اپنی فرم ہے جس کا نام ہے ”راشی زاویری اینڈ کمپنی“ ..... وہ اپنے میدان میں کافی زیادہ شہرت کے حامل ہیں ..... وہ ایک بہترین مقرر ہیں ..... جہاں تک نہ ہی تقاریر کا تعلق ہے ..... وہ بہت سے نہ ہی فلسفوں کے ماہر ہیں ..... ان پر دسترس رکھتے ہیں ..... وہ چارڑڈا کاؤنٹنگ سوسائٹی کے ایک فعال رکن ہیں ..... وہ بھارت جیں مہامنڈل کے رکن بھی ہیں ..... وہ جیں دانش وردوں کے فورم کے بانی بھی ہیں ..... جیں مت کے

حامل افراد کے لیے یہ ایک اہم ادارہ ہے۔ وہ کالا گجاری (Kala Gujari) کے ساتھ بھی بخوبی مسلک ہیں..... 63 برس کی عمر میں بھی وہ نوجوان دکھائی دیتے ہیں..... وہ سخت مختی ہیں اور تو انہی سے بھرپور ہیں اور وہ ہمیشہ اس قسم کے مباحثوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں..... اور آج کا مباحثہ حقیقت میں ایک اچھا مباحثہ ہے۔ میں مسٹر راشی بھائی زاویری کا تعارف پایہ اختتام کو پہنچانے سے قبل میں اپنے مہمان خصوصی کے علاوہ دھن راج جی اور ڈاکٹر ناٹک صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنھوں نے اس مباحثے کے اہتمام میں بڑھ چڑھ کر کاوش سرانجام دی جس کا عنوان ہے کہ:

”کیا انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز ہے؟“

(ڈاکٹر محمد)

جناب اشرف محمدی ..... ڈاکٹر ڈاکٹر ناٹک کو متعارف کروائیں گے۔

(اشرف محمدی)

ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالکریم ناٹک ..... عمر 33 برس ..... اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر ہیں..... اگرچہ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک طبی ڈاکٹر ہیں لیکن وہ اسلام اور تقاضی مذاہب کے میدان میں میں الاقوامی خوش بیاں مقرر کا درجہ رکھتے ہیں..... ڈاکٹر ڈاکٹر اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو رفع کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتے ..... وہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے ان غلط فہمیوں کو رفع کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ انہیں دیگر مذاہب کی مذہبی اور مقدس کتب پر بھی گراں قدر عبور حاصل ہے..... وہ دلائل ..... منطق اور جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے تقدیدی تجزیات اور قائل کر لینے والے جوابات کے لیے بھی مشہور ہیں..... وہ ان

سوالات کے قائل کر لینے والے جوابات پیش کرتے ہیں جو ان کے سامعین ان سے دریافت کرتے ہیں اور یہ سوالات ان کی عوایی تقاریر اور مباحثوں کے بعد ان سے کیے جاتے ہیں..... گذشتہ تین برسوں کے دوران انھوں نے دنیا بھر میں 300 سے زائد عوایی مباحثے منعقد کیے ہیں۔ ڈاکٹر ڈاکر دنیا بھر میں کئی ایک میں الاقوایی ٹیلی ویژن اور سیٹل اسٹ ٹیلی ویژن چینل جات کی بھی زینت بن چکے ہیں..... انھوں نے مختلف مذاہب کی حامل کئی ایک شخصیات کے ساتھ کئی ایک مذاکرے بھی سرانجام دیے ہیں۔

(ڈاکٹر محمد)

بہت سے افراد نے مجھے یہ سوال کیا ہے کہ:

”ہم یہ مباحثہ کیوں کر رہے ہیں..... ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے..... ان مقررین کا انتخاب کیوں کیا ہے؟  
میں اس کیوضاحت پیش کرنا چاہوں گا۔

”تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل مسٹر ڈن راج سلچا ایک روز اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے دفتر آئے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا جا پڑا ہے کہ وہ رشیح فاؤنڈیشن کے صدر ہیں..... ان کے پاس کچھ لڑپکر موجود تھا جس میں سبزی خوری کا پرچار کیا گیا تھا..... سبزی خوری کی تعریف کی گئی تھی..... اور سبزی خوری اپنانے کو سراہا گیا تھا..... اس لڑپکر میں دنیا کے بڑے مذاہب کے حوالے بھی شامل تھے اور اس میں قرآن پاک کے حوالے بھی شامل تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بھی شامل تھے..... بقول ان کے یہ سب کچھ یہ ظاہر کرتا تھا کہ گوشت خوری انسانوں کے لیے ناجائز ہے..... انسانوں کے لیے منوع

ہے..... کچھ بحث مباحثے کے بعد مشریع پیش کی  
کہ پانگر ہاں میں ایک عوامی مناظرے کا اہتمام ہونا چاہیے .....  
اور یہ مباحثہ مشریع رائی بھائی زاویری ..... صدر۔ ہندوستانی سبزی  
خوروں کی کانگرس اور ڈاکٹر ڈاکٹر نائل صدر اسلام ریسرچ  
فاؤنڈیشن کے درمیان ہونا چاہیے اور اس مناظرے کا عنوان  
ہونا چاہیے کہ:

”انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز؟“  
”اس طرح سامعین کرام کے لیے یہ ممکن ہو گا کہ وہ مختلف اقسام  
کے نقطہ ہائے نظر کو جان سکیں اور دونوں مقررین کے نقطہ نظر  
سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنی ذاتی رائے قائم کر سکیں۔  
دونوں مقررین اس امر کے لیے متفق ہو گئے ..... یہ محض پانچ  
روز پہلے کی بات ہے ..... میں نے مشریع زاویری سے ملاقات کی  
اور انہوں نے درخواست کی کہ اپنی گفتگو کے دوران ..... اپنے  
خطابات کے دوران دونوں مقررین کو دیگر مذہب کو موضوع  
بنانے سے احتراز کرنا چاہیے ..... اگرچہ ڈاکٹر ڈاکٹر نائل مذاہب  
کے میدان میں انتہائی سرگرم اور پڑھوں ہیں لیکن وہ بھی مان  
گئے۔ اس لیے جہاں تک مذہبی نکات کا تعلق ہے ..... خطاب  
کے دوران اور ہمارے مقررین کے لیے جوابات کے  
دوران ..... مشریع زاویری فقط جیں مت کے نقطہ نظر کے حوالے  
سے بات کریں گے جبکہ ڈاکٹر ڈاکٹر محض اسلام کے نقطہ نظر کے  
حوالے سے بات کریں گے ..... بشرطیکہ اس سے ہٹ کر لا جعل

اختیار کرنے کے لیے مجبور نہ کیا گیا۔

چنانچہ اس مباحثے کے پس منظر کا یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا جو مباحثے کے اغراض و مقاصد واضح کرنے کے لیے ضروری تھا۔  
یہ پروگرام اس طرح جاری و ساری رہے گا جس طرح ملے پایا گیا ہے..... جس طرح دونوں مقررین کے درمیان ملے پایا ہے..... مسٹر راشی بھائی زاویری پہلے خطاب فرمائیں گے۔ وہ 50 منٹ تک ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں گے..... خطاب کا موضوع ہو گا کہ:

”انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز؟“

”اس کے بعد ڈاکٹر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ وہ بھی 50 منٹ تک ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں گے..... ان کے خطاب کا موضوع بھی ہتھی ہو گا۔“

دونوں مقررین کے خطاب کے بعد خطاب کے جواب کا ایک اجلاس ہو گا..... اس دوران مسٹر زاویری 15 منٹ کے اندر اندر ڈاکٹر ڈاکٹر کے خطاب کا جواب پیش کریں گے..... ڈاکٹر ڈاکٹر نے اپنے خطاب کے دوران جو مواد پیش کیا ہو گا اس پر اپنا جوابی عمل ظاہر کریں گے۔ جب خطاب کے دورانیے کے پانچ منٹ بقایا رہ جائیں گے تب میں ہر ایک مقرر کو یہ باور کروادوں گا کہ آپ کے دورانیے کے پانچ منٹ باقی ہیں تاکہ وہ اپنی گفتگو کو سیئٹھے ہوئے اختتام تک پہنچا سکیں۔

آخر میں ہمارا سوال جواب کا اجلاس ہو گا۔ اس اجلاس میں سامعین کرام دونوں مقررین سے باری باری سوالات پوچھ سکتے ہیں..... یہ سوالات ماںک کی وساطت سے پوچھے جاسکتے ہیں جو کہ ہال میں مہیا کیے گئے ہیں..... تحریری سوال بھی

قابل قبول ہوں گے لیکن اس کو دوسری ترجیح حاصل ہوگی..... اگر وقت نے مهلت دی تو ان کے جواب بھی پیش کیے جائیں گے۔

اب میں اپنے پہلے مقرر سے درخواست کروں گا (مسٹر راشی بھائی زاویری) کے وہ اپنا خطاب پیش کریں۔

خواتین و حضرات مسٹر راشی بھائی زاویری

(مسٹر زاویری)

بیشتر اس کے کہ میں اپنے خطاب کا آغاز کروں ..... میں حقیقت میں از حد خوش ہوں ..... مجھے بھائی چارے کے اس ماحول ..... بھائی چارے کی اس فضا کو دیکھ کر از حد خوش محسوس ہو رہی ہے۔

(تالیاں)

”مہمان خصوصی مسٹر والی۔ پی۔ تریویدی ..... صدر ریشمہ کار پوریشن ..... شری دھن راج سلیچا ..... فاضل مقرر ڈاکٹر ڈاکٹر ناک ..... ماہر تبصرہ نگار اور کوآرڈی نیٹر ڈاکٹر محمد ناک ..... آئی وی سی کے نائب صدر شری چمن بھائی وہرہ ..... دیگر معزز حاضرین کرام ..... میرے دوستو ..... بھائیو اور بہنوں .....“

سب سے پہلے میں اس کاوش کو خراج تحسین پیش کروں گا جس کے تحت تینوں اداروں بالخصوص اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے یہ زحمت فرمائی کہ اس لیکھر کا بخوبی انتظام سرانجام دیا ..... مجھے یہ کہنے میں کوئی قباحت اور کوئی ہچکچا ہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ اس کا تمام تر سہرا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے سر ہے۔ دوستو آج کا موضوع ہے:

”انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز؟“

اس موضوع کے بارے میں کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی بیان ہمیشہ متعلقہ نقطہ نظر کے تحت زیرنظر رکھا جاتا ہے..... اس بارے میں قطعی حقائق..... قطعی بیان موجود نہیں ہے جو یہ یقین دہانی کرو سکے کہ یہ 100 فیصد جائز ہے یا سو فی صد ناجائز ہے..... لہذا دوستو..... آئیے ہم دیکھیں..... مسٹر تریویدی نے بجا فرمایا ہے کہ ہم حاضر مذہبی نقطہ نظر کے تحت بات نہیں کریں گے..... مذہب..... مذہب کو داخل کرنا ہو گا..... آپ آج کے موضوع سے مذہب کو کسی بھی صورت الگ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں اس موضوع پر بات کرنا..... خطاب کرنا پسند کروں گا کہ:

”گوشت خوری انسان کے لیے ناجائز ہے۔“

یا

”گوشت خوری انسان کے لیے منوع ہے۔“  
یہ کئی ایک زاویوں..... کئی ایک نظریات..... کئی ایک وجوہات کے تحت منوع ہے۔

مثال کے طور پر جغرافیائی وجوہات ہو سکتی ہیں..... تاریخی وجوہات ہو سکتی ہیں..... اخلاقی وجوہات ہو سکتی ہیں..... مذہبی وجوہات ہو سکتی ہیں..... معماشی ماخولیاتی..... فطرتی اور نفیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں اور سب سے بڑھ کر طبی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے..... اب یہ نظریہ مکمل طور پر قائم ہو چکا ہے کہ ہمارے اعمال..... ہماری سوچوں کے ذریعہ کنٹرول ہوتے ہیں..... ہماری سوچیں ہمارے عمل کو کنٹرول کرتی ہیں۔

ہم جو کچھ سوچتے ہیں..... جو عمل کرتے ہیں..... اور ہماری سوچوں کو ہماری خواراک کنٹرول کرتی ہے..... ہم جیسی خواراک کھاتے ہیں ویسا ہی عمل سرانجام دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے..... ہمیں خواراک کا انتخاب

کچھ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہماری سوچ کا زاویہ ثبت حیثیت کا حامل ہو..... لفظ ”ثبت“ میں سب کچھ شامل ہے..... اور یقین کریں میرے دوستو..... نہ صرف تمام تر مذاہب نے بلکہ طبعی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ لازمی طور پر ہماری سوچوں کو متاثر کرتی ہے..... اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ دوستو ایک وقت ایسا بھی تھا جبکہ نعم البدل میرنہ تھا..... جیسا کہ مسٹر تریویدی نے درست کہا تھا کہ:

”اس دنیا میں ایسے مقامات بھی موجود تھے..... اور حتیٰ کہ اب بھی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پر بزریاں دستیاب نہیں ہیں۔ لہذا ان حالات میں ایسے مقامات کے لوگ کیسے بزریوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔“

لیکن اب دنیا ازحد ترقی کر چکی ہے..... اس ترقی کی بدولت نقل و حمل کے ذرائع بھی برق رفتار ہو چکے ہیں..... نقل و حمل کے ذرائع نے بھی ازحد ترقی کر لی ہے..... اب نقل و حمل کا برق رفتار نظام دستیاب ہے اور کوئی بھی چیز بہمول غذا وغیرہ دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں بخوبی بھیجا سکتی ہے اور اس کی نقل و حمل اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔

اب چونکہ ہمیں نعم البدل دستیاب ہے لہذا ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کون سانum البدل بہتر ہے..... اور ہمیں یہ سوچ بچار تمام حوالوں سے سرانجام دینا چاہیے..... جو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں..... اور میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں..... ”گوشت خوری کی اجازت نہیں ہے“..... محض ہندوستان کے لیے اس کی اجازت بند نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے اس کی اجازت بند ہے..... پوری دنیا کے لیے گوشت خوری ناجائز ہے۔ پہلی بات یہ

ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ:

”تمام تر ہندوستانی فلاسفوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی جاندار مخلوق کو نقصان سے دوچار نہیں کرنا چاہیے..... نہ صرف اس جاندار مخلوق کو نقصان سے دوچار نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے بلکہ اس جاندار مخلوق کو بھی نقصان سے دوچار نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی..... ایسی جاندار مخلوق ہوا..... پانی..... اور آگ میں موجود ہے۔“

لیکن ہر کام کی ہمیشہ ایک حد ہوتی ہے..... انسان کے لیے یہ ایک مشکل امر ہے کہ وہ کسی ایک کام سے مکمل طور پر باز رہے..... خلاف ورزی اس کی ضرورت کی شکل میں سراخھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لارڈ مہاویر نے کہا ہے کہ:

”کم از کم آپ لازمی ہلاکتوں کو تو محدود کر سکتے ہیں اگرچہ مکمل ہلاکتوں سے اپنا دامن نہیں بچا سکتے..... اپنے خود غرضانہ مقاصد یا پھر اپنی بھوک کی ضرورت کے پیش نظر آپ مکمل ہلاکتوں سے دست بردار نہیں ہو سکتے۔“

اور یہی وجہ ہے کہ:

”جن مت کے تحت اور ہندوستان کے اکثر فلسفوں کے تحت گوشت خوری مکمل طور پر منوع ہے۔“

چونکہ یہ ہمارا مذہبی پہلو ہے لہذا میں اس کی گھرائی میں نہیں اتروں گا..... لیکن جہاں تک نفسیاتی پہلو کا تعلق ہے..... کہ گوشت خوری ہماری سوچوں اور ہمارے عمل اور افعال پر اثر انداز ہوتی ہے..... یہ ایک اہم ترین حصہ ہے..... فاضل مصنفین..... فی الحال میں ان کے نام فاش نہیں کروں گا لیکن میرے پاس ان کے

حوالے موجود ہیں..... انہوں نے کہا کہ:

”بزری خوری دنیا سے غیر ضروری تکالیف اور مصائب کا خاتمہ کرتی ہے اور ہمارے جسمانی نظام کی فگہداشت کرتی ہے۔“

دیکھیں جب میں نعم البدل کی بات کرتا ہوں ..... آپ ادھر دیکھیں.....

آپ ان درندوں کی جانب دیکھتے ہیں جو جنگلوں میں بسیرا کرتے ہیں ..... وہ جو گوشت خور ہیں ..... محض وہ درندے ہی اپنے آپ کو گوشت خوری تک محدود رکھیں گے ..... لیکن وہ جانور جو بنا تات خور ہیں وہ کبھی گوشت کو منہ نہیں لگائیں گے۔ محض انسان ہی ایسی مخلوق ہے ..... کچھ غلط نظریات کی بنا پر میں یہ کہوں گا کہ انسان میں دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں ..... وہ بیک وقت بزری خور بھی ہے اور گوشت خور بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ:

”اگر نعم البدل موجود ہے تو کیوں غیر ضروری ہلاکتوں کو اپنے سر لیا جائے۔“

اس اصول کے پیچھے جو مقصد کارفرما ہے وہ عدم تشدد ہے ..... جانوروں سے محبت اور ہمدردی ہے ..... پرندوں کے لیے ..... مچھلیوں کے لیے وغیرہ وغیرہ محبت اور ہمدردی ہے۔

کیونکہ گوشت خوری اور گوشت پر مشتمل غذا میں ایک ایسے درجے میں شامل ہیں جو ایک ضروری اور لازمی درجہ نہیں کھلاتا جبکہ بزری خوری ..... بزری پر مشتمل غذا میں ایک لازمی درجے میں شامل ہیں ..... نفیاتی طور پر بھی گوشت خوری ایک ظالمانہ رویے کی عکاسی کرتی ہے ..... یہ نہ صرف جانوروں کے ساتھ ظلم ہے بلکہ گوشت خوری کی بدولت انسان میں بھی جانوروں والی خصلتیں اور خصوصیات عود کر آتی ہیں ..... انسان میں بھی حیوانی جبلت عود کر آتی ہے ..... اگر ہم حیوانی جبلت سے

اپنا دامن بچا سکیں تب ہی ہم انسان کھلوانے کے مستحق ہو سکتے ہیں..... وگرنہ انسانوں میں ایک فاضل خصوصیت بھی پائی جاتی ہے..... وہ استدلالی ذہن کا حامل ہے..... گوشت خوری کی بدولت انسان کی یہ خاصیت زنگ آسود ہو جاتی ہے اور انسان زیادہ جانور کی موافق ہو جاتا ہے..... اس کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ گوشت جانور کے جسم کا ایک کامل حصہ ہوتا ہے..... یہ "تماسک" (Tamasik) اقدار سے لبریز ہوتا ہے..... تین اقسام کی اقدار ہوتی ہیں:

(i) **تماسک** (Tamasik)

(ii) **راج یاسک** (Raj Yasik)

(iii) **شارترک** (Shart Rik)

مختصر طور پر یہ کہ "تماسک" وحشیانہ حس ہوتی ہے..... یا جانور کی وحشیانہ خصلت ہوتی ہے..... ایک انسان زیادہ جانور کی طرح ہو جاتا ہے..... وہ لاپروا ہو جاتا ہے..... ظالم بن جاتا ہے..... وہ جاہل اور بے خبر بن جاتا ہے۔ اگر وہ اس خوراک کو استعمال کر رہا ہے جو مردہ جانوروں کے حصوں پر مشتمل ہے۔ جرام کی شرح بڑھ جاتی ہے..... گوشت پر مبنی غذا جاگرتی پسند بنا ڈلتی ہے..... یہ سوچ بچار اور استدلال کی قوت کو نقصان پہنچاتی ہے..... یہ نہ صرف بذات خود ایک مسئلہ ہے بلکہ کئی دیگر مسائل کو بھی جنم دیتا ہے..... مثلاً جرام کی شرح میں اضافہ..... ظلم وغیرہ۔ وغیرہ..... گوشت پر مشتمل غذا میں استعمال کرنے کی بدولت ذاتی کنٹرول..... رحم دلی وغیرہ رخصت ہو جاتی ہے..... اگر ہم جانوروں کے ساتھ زیادہ ظالمانہ سلوک روا رکھیں تب ہمارا عمل ایک انسانی عمل کی بجائے ایک وحشیانہ عمل ہو گا۔ میں ایک شاعری کا حوالہ پیش کروں گا کہ کیا وقوع پذیر ہو گا اگر ہمارے دل میں جانوروں جیسی خصلتیں سما جائیں گی..... انسان کیا بن کر رہ جائے گا.....

آدمی کی شکل سے اب ڈر رہا ہے آدمی  
آدمی کو لوٹ کر گھر بھر رہا ہے آدمی  
آدمی ہی مارتا ہے مر رہا ہے آدمی  
سبھ کچھ آتا نہیں کیا کر رہا ہے آدمی

دوستو یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان حیوان بن چکا ہے..... وہ یہ فرق مجھے  
سے قاصر ہو چکا ہے جو ایک انسان اور حیوان کے درمیان موجود ہے..... وہ اب اس  
فرق کی پہچان نہیں کر سکتا کہ کیا وہ ایک حیوان ہے یا انسان ہے کیونکہ یہ خوراک کا اثر  
ہے..... اس خوراک کا جو گوشت خوری پر مبنی ہے اور جو وہ بڑے شوق کے ساتھ کھاتا  
ہے..... گوشت خوری نفیاتی الجھنوں کا بھی باعث بنتی ہے..... لہذا اب یہ بات پایہ  
تکمیل کو پہنچ پچکی ہے کہ گوشت خوری اخلاقی اور روحانی انحطاط کا بنیادی سبب ہے۔  
ہم..... ہندوستانی سبزی خوروں کی کانگرس کے ارکان..... ہم ایک اہم کام سرانجام  
دے رہے ہیں..... ہمارا یہ کام انسان کو جانوروں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ  
رہنے میں معاونت فراہم کرے گا..... انسان اور حیوان ایک دوسرے کے ساتھ امن و  
امان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے..... ہم ہندوستانی سبزی خوروں کی کانگرس والے

ایک سبزی خور کی تعریف کچھ یوں سرانجام دیتے ہیں کہ:

”وہ شخص جو کسی بھی وقت..... کسی بھی حالت میں گوشت،

مچھلی..... پرندوں یا مرغی کا گوشت..... ائڑے اور دیگر اقسام کی

گوشت پر مشتمل غذا میں استعمال نہیں کرتا۔“

نارمن کونسن نے کیا کہا تھا اور البرٹ سونزر کیا کہتا ہے.....

”جب تک انسان اپنی ہمدردی کا دائرہ کارتاماں تر جاندار مخلوق تک

نہیں بڑھاتا اس وقت تک انسان اپنے لیے امن و سکون حاصل

نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی ہمدردی..... تمام تر جاندار مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہی ہے جو اسے حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔“

اب دوستوں میں کچھ مزید پیش قدی کرتے ہوئے ایک اہم ترین موضوع کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں ..... اور وہ ہے طبی ناطق نظر میرے دوستو یہ غلط ہے ..... یہ جھوٹ ہے ..... یہ ایک من گھڑت قصہ ہے کہ ہم سبزیوں پر مشتمل غذا سے زیادہ پروٹین حاصل نہیں کر سکتے اور پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو گوشت خوری کرنی چاہیے چونکہ یہ پروٹین کا خزانہ ہے ..... میں ایک ایک کر کے اس غلط نظر یے کا بھید کھولوں گا۔

سب سے پہلے ..... سب سے پہلے میں آپ کو ان جانوروں کی مثال دوں گا جو مضبوط ترین جانور کہلانے کے مستحق ہیں ..... مثال کے طور پر ہاتھی اور گینڈا وغیرہ وغیرہ ..... یہ جانور روئے زمین پر مضبوط ترین جانور ہیں ..... کیا یہ جانور گوشت خور ہیں؟ نہیں ..... وہ خالص سبزی خور ہیں ..... اگر وہ مر بھی جائیں تو گوشت نہیں کھائیں گے ..... وہ بھوک کے ہاتھوں مرنا تو برداشت کر سکتے ہیں مگر گوشت خوری برداشت نہیں کر سکتے ..... اس کے باوجود بھی وہ مضبوط ترین جانور ہیں۔

آپ گھوڑے کی مثال مذکور رکھ سکتے ہیں ..... ہم ”ہارس پاؤر“ کی بات کرتے ہیں ..... یہ بہت طاقتور مخلوق ہے ..... ہمارے مقصد کے لپے کار آمد بھی ہے ..... اور یہ مخلوق بھی خالص سبزی خور ہے۔

آپ مویشیوں کی مثال بھی مذکور رکھ سکتے ہیں ..... مثلاً گائے، بیل وغیرہ وغیرہ اور دیگر مویشی بھی زیر غور لا سکتے ہیں ..... یہ مویشی نہ صرف ہمارے لیے سودمند ہیں بلکہ یہ خالص سبزی خور ہیں۔

میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبزی خور جانور ضرورت سے زیادہ مضبو-

واقع ہوئے ہیں اور ان کو گوشت خوری کی کوئی ضرورت درپیش نہیں ہے۔

اگر حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جانوروں کو گوشت خوری کروائی جائے تب کیا وقوع پذیر ہوگا؟ آپ تمام احباب ”پاگل گائے کی بیماری (The mad cow disease) کے بارے میں جانتے ہیں..... دوستو آپ جانتے ہیں کہ چند برس پہلے کیا ہوا تھا؟ انگلستان میں کیا وقوع پذیر ہوا تھا؟..... مویشیوں کو پروٹین مہیا کرنے کی غرض سے ان کو بھیڑ کی پروٹین ملی خوراک استعمال کروائی گئی تھی..... بھیڑ کسی قسم کی بیماری کے جراشیم کی حامل تھی..... اگر ایک بھیڑ گائے کو پاگل بنا سکتی ہے تو آپ انسان پر اس کا کیا نتیجہ مرتب ہونے کی توقع کر سکتے ہیں؟ لاکھوں گائیں بے دردی کے ساتھ ہلاک کی گئیں کیونکہ ان کا اس مرض میں گرفتار ہونے کا خدشہ تھا حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہ تھا..... لیکن احتفاظہ طریقے سے انھیں بھیڑ کی پروٹین کھلانا..... جو کہ ایک گائے کے لیے غیر فطری خوراک ہے اور بھی کچھ انسان کے ضمن میں بھی ہے..... حیوانی پروٹین ہمارے لیے فطری نہیں ہے۔ اسی طرح مشرقی ایشیا کے ممالک میں لاکھوں مرغیاں ہلاک کی گئی تھیں کیونکہ وہ بھی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ اب آئیے ایک صحت مند غذا کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں ڈاکٹر ڈین آرش کا حوالہ پیش کروں گا..... اس نے ایک انہائی مفید کتاب تحریر کی ہے کہ:

”اپریشن اور ادویات کے بغیر دل کے عوارض سے چھٹکارا حاصل کرنا کس طرح ممکن ہے؟“

اور میرے دوستو یہ کتاب امریکہ میں کثیر تعداد میں فروخت ہونے والی کتاب کی حیثیت حاصل کر چکی ہے..... یہ کتاب امریکی عوام کے لیے دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے..... اس کتاب نے امریکہ کے علاوہ تمام دنیا میں یہ شعور اجاگر کیا ہے کہ:

”طبی نقطہ نظر سے سبز یوں پر مشتمل غذا یعنی طور پر ایک بہترین

غذا ہے۔“

اس نے دو اقسام کی غذا کا ذکر کیا ہے..... ایک غذا وہ غذا ہے جو دل کے عوارض سے چھکارا دلانے میں معاونت سر انجام دیتی ہے۔ اور دوسرا وہ غذا ہے جو دل کے عوارض سے بچانے میں معاونت سر انجام دیتی ہے۔

اور یہ دونوں اقسام کی غذا میں سبز یوں پر مشتمل غذا میں ہیں۔ کیونکہ اس نے سائنسی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ:

”سبز یوں پر مشتمل غذا ایک بہترین غذا کا درجہ رکھتی ہے اور یہ غذا انسان کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ یہ غذا نہ صرف دل کے عوارض میں مبتلا مریضوں کی معاونت سر انجام دیتی ہے بلکہ ان عوارض کے لاحق ہونے کے خطرات بھی کم کرتی ہے جو گوشت پر مشتمل غذا کے استعمال سے لاحق ہو سکتے ہیں..... عوارض مثلاً جسم کے مختلف حصوں کے سرطان..... بلند فشار خون..... ذیابیطس..... دل کا دورہ وغیرہ وغیرہ۔“

امریکی سرجن جزل نے اس امر کی تصدیق کی ہے۔ یہ تصدیق اس نے ”غذائیت اور صحت“ کی ایک رپورٹ میں کی ہے۔ اس نے پروٹین کے بارے میں چند حقائق سے بھی پرداہ اٹھایا ہے۔

دوستو اس سلسلے میں ہمیں قدرے ٹیکنیکل بننے کی ضرورت درپیش ہو گی۔ پروٹین بلڈنگ بلاک سے نہیں ہے..... جو اماں نو ایسٹ کھلاتے ہیں ..... یہ لاکھوں اقسام کے حامل ہوتے ہیں لیکن محض تین اقسام ہمارے لیے ناگزیر ہیں ..... لیسین (Lysine) ..... ٹریپتوفان (Tryptophan) اور میتھو ماں

..... یہ تمام حیوانی اور نباتاتی غذاوں میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص ان کے حصول کے لیے حیوانی غذا استعمال کرتا ہے..... ان تینوں ایمینو ایڈ کے حصول کے لیے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری عناصر مثلاً کولیشورول، روغنیات وغیرہ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ دوستوں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسانی زندگی کو ہلاکت کا شکار کرنے میں سر فہرست ہیں۔

- (i) کولیشورول
- (ii) روغنیات

آئیے اب ہم اس مسئلے کی طرف اپنی توجہ مرکوز کروائیں جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ:

”سبری خوری کی بدولت ..... سبزی پر مشتمل غذا میں استعمال کرنے کی بدولت ہم مناسب پروٹین کے حصول میں کامیاب نہیں ہوتے لہذا ہمیں گوشت خوری کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے تاکہ اماں نو ایڈ کی مناسب فراہمی کو ممکن بنایا جاسکے۔“

یہ خیال بالکل غلط ہے۔ آپ والوں ..... گندم، چاول وغیرہ پر مشتمل غذا میں استعمال کریں تو آپ ایک مکمل متوازن غذا کے حصول میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کو مکمل پروٹین مہیا کرے گی اور یہ پروٹین اس پروٹین سے مختلف ہرگز نہ ہوگی جو آپ انڈوں اور گوشت سے حاصل کرتے ہیں ..... مزید یہ کہ آپ کولیشورول کے علاوہ حیوانی خصلتوں کے حاصل ہونے سے بھی بخی سکیں گے۔

یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سبزی پر مشتمل غذا زیادہ غذائیت کی حاصل ہوتی ہے اور زیادہ صحت مند واقع ہوتی ہے ..... نباتاتی غذا کولیشورول سے مکمل طور پر پاک ہوتی ہے جبکہ کولیشورول محض حیوانی مصنوعات میں پایا جاتا ہے مثلاً گوشت .....

پولٹری.....محچھلی اور ڈیری وغیرہ وغیرہ۔ گوشت پر مشتمل غذاوں میں اور روغنیات بھی پائے جاتے ہیں اور ہمارا جگہ ان کو کویسٹروں میں تبدیل کر دیتا ہے..... ہمیں جتنی مقدار میں کویسٹروں کی ضرورت درپیش ہوتی ہے وہ ہمارا جسم بذات خود مہیا کرتا ہے۔ وہ ستواب یہ ایک اہم نکتہ ہے اور آپ کو یہ نکتہ سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ ہمیں کویسٹروں کی ضرورت درپیش ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ کویسٹروں جیوانی غذاوں سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے..... ہمارا جسم ..... یہ ایک حیران کن مشینزی ہے..... ہمارا جسم تمام تر پروٹئن..... کویسٹروں اپنے نظام کے تحت بذات خود مہیا کر سکتا ہے۔ ہمارے خون میں شامل کویسٹروں کا 3/4 حصہ ہمارا جسم بذات خود بناتا ہے۔ ہم غذا کے ذریعے جو فاضل کویسٹروں اور روغنیات اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں وہ دل کے عوارض کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت خوری کی بدولت دیگر کئی ایک عوارض لاحق ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے ڈاکٹر دیپک چوپڑا کے بقول:

”ہمارا جسم اتنی الہیت کا حامل ہے کہ وہ سو برس سے زائد عرصہ

تک زندہ رہ سکے بشرطیکہ ہم اس کی مناسب غہدہ اشت کریں۔“

آپ انتہائی شمال کی آبادی کی جانب دیکھیں..... اسکیمو..... چونکہ ان کے ہاں سبزیاں دستیاب نہیں ہیں لہذا انھیں گوشت خوری کرنا پڑتی ہے..... ان کی مجبوری ہے..... اور ایک اسکیمو کی اوسط زندگی محض تیس برس ہے۔ گوشت پر مشتمل تمام غذاوں میں وٹامن سی اور وٹامن اے نہیں پایا جاتا اور یہ دونوں وٹامن فطری طور پر سبزیوں میں دستیاب ہیں۔ اندوں میں شامل ایواڈن (Avidin) اور دیگر خطرناک بیکٹیریا کی ایک جلدی پیدا ریوں کا موجب بنتے ہیں جن میں ایگزیما بھی شامل ہے۔

اب میں آپ کو کچھ سائنسی حقائق سے بھی مطلع کروں گا۔ ایک طبی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ سبزی خرونوں میں گوشت خرونوں کی نسبت

دل کی بیماریاں کم پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ صرف ہندوستان میں بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ان کے طبی معائنے کا کوئی معقول بندوبست نہیں کیا جاتا۔ لہذا متعلقہ جانور جن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے وہی بیماریاں اس کے گوشت سے لطف اندوز ہونے والے احباب کو منتقل ہو جاتی ہیں۔

دوسٹو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انسانوں کی طرح جانور بھی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں بھی مختلف اقسام کی بیماریوں کے جراثیم پائے جاتے ہیں اور جب ان جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور یہ جانور انسانی خواراک بنتے ہیں تو ان بیماریوں کے جراثیم انسانوں کے جسموں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ فوڈ پاؤائزنگ کی بیماری میں مبتلا ہونے والے احباب میں سے 90 فیصد وہ ہوتے ہیں جو گوشت خوری کرتے ہیں۔ جب ایک جانور یا پرندہ مذبح خانے لایا جاتا ہے..... دوستو یہ مسئلہ کچھ وضاحت درکار رکھتا ہے..... میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں..... اگر آپ نے کبھی مذبح خانہ یا پولٹری فارم دیکھا ہو تو آپ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ جب جانور مذبح خانے لائے جاتے ہیں اور جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذبح کیے جا رہے ہیں..... ان میں غم و غصے..... تکلیف اور درد کا احساس اجاگر ہوتا ہے اور یہ احساس ان کے تمام تر جسمانی نظام میں گردش کرنے لگ جاتا ہے..... یہ ایک ایسے ہارمون کی افزائش کا سبب بنتا ہے جسے اینڈر لائے (Adre Line) کہا جاتا ہے جو خون میں شامل ہو جاتا ہے اور جانور کے گوشت میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اب خوف و ہراس، غم و غصہ اور ناراضگی، مایوسی وغیرہ کی تمام تر خصلتیں..... تمام تر منفی نکات اس گوشت پر مشتمل غذا کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان افراد کو منتقل ہو جاتی ہیں جو اس گوشت کو کھاتے ہیں۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ

”جب کوئی شخص گوشت خوری کرتا ہے تو وہ حیوان کے موافق زیادہ بن جاتا ہے اور انسان کے موافق کم بنتا ہے۔“

اب میں اس مغالطے کی طرف بڑھتا ہوں جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ:  
”تیزی کے ساتھ بڑھنے والے بچوں کے لیے انڈے کا استعمال از حد ضروری ہے کیونکہ ان میں پروٹین موجود ہوتی ہے۔“

جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پروٹین سودمند ثابت ہونے کی وجائے نقصان دہ زیادہ ثابت ہوتی ہے اور جو پروٹین ہمیں والوں ..... گندم اور دیگر انماں سے حاصل ہوتی ہے وہ اس پروٹین کی نسبت بدر جہا بہتر اور قدرتی ہوتی ہے جو ہم حیوانی غذاؤں سے حاصل کرتے ہیں ..... اب میں آپ کو ایک مثال پیش کروں گا تاکہ مزید وضاحت ممکن ہو سکے:

”ہر ایک انڈے کا وزن تقریباً 100 گرام ہوتا ہے اور اس میں 170 کلو رینز ہوتی ہیں ..... اس میں 13.6 فیصد پروٹین ہوتی ہے جبکہ کسی بھی دال میں 24 فیصد پروٹین ہوتی ہے ..... یعنی 100 گرام وزن کے حامل انڈے کی نسبت 100 گرام دال میں کہیں زیادہ مقدار میں پروٹین پائی جاتی ہے۔ انڈے میں روغنیات کی مقدار 13.3 فیصد ہوتی ہے جبکہ دال وغیرہ میں اس کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے یعنی محض ایک فیصد۔

ایک انڈے میں 450 تا 500 ملی گرام کولیسٹرول پائی جاتی ہے ..... اسکیوں ایسٹ جو کہ ”میونائن“ کہلاتا ہے ..... جو وٹامن بی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے کہ علاوہ سو ڈیم سالٹ کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے ..... یہ سب کچھ انڈے کا ایک لازمی جزو ہے۔“

اور جب کوئی شخص انڈا کھاتا ہے تو وہ اپنے جسم کو روگ لگا بیٹھتا ہے ..... یہ روگ کیوں لگتا ہے ..... یہ روگ اس لیے لگتا ہے کہ پروٹین کی زیادتی کے علاوہ کولیسترول اور رونگیات کی زیادتی اس روگ لگانے کا باعث بنتے ہیں۔ انڈے میں کاربوہائیڈز ریٹ اور ریشے دار اجزاء بالکل نہیں پائے جاتے۔

دوسٹو طبی سائنس اب انتہائی ترقی کر چکی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ نظام ہضم کو بہتر بنانے ..... اسے فعال رکھنے ..... اور اسے کسی خطرے سے دوچار ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ریشے دار غذا میں استعمال کرنی چاہئیں اور یہ ریشے دار غذا میں اسی صورت میں دستیاب ہو سکتی ہیں جبکہ ہم سبزیوں پر مشتمل غذا میں استعمال کریں اور گوشت پر مشتمل غذاوں سے پرہیز کریں۔

اب خرچے کے حساب سے میں انڈے کا موازنہ سر انجام دے رہا ہوں ..... ایک گرام پروٹین کے حصول کے لیے انڈے کی قیمت دالوں، گندم اور سویا بین کی قیمت سے چار یا پانچ گناہ زائد ہے ..... 100 کلو ریز کی قیمت دالوں کی قیمت سے تقریباً ایک سو گناہ زائد ہے ..... لہذا دالیں، گندم وغیرہ وغیرہ نہ صرف قیمت کے لحاظ سے سستی ہیں بلکہ وہ دیگر اہم غذائیت فراہم کرنے کا بھی سبب بنتی ہیں۔ مثلاً وٹامن، دھاتیں، ریشے وغیرہ وغیرہ۔

آئیے اب ہم پولٹری فارم کی طرف بھی ایک نظر دو ڈا میں ..... لوگ اسے پولٹری فارم کہتے ہیں ..... لیکن یہ پولٹری فارم نہیں بلکہ پولٹری فیکٹری ہے ..... جس طریقے سے پرندوں کو قید رکھا جاتا ہے ..... ان کو کھانے پینے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنی پڑتی ہے کیونکہ جگہ کی قلت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اس میدان سے وابستہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ:

” یہ ہماری فیکٹری ہے ..... اور یہ پرندے ہماری مصنوعات ”

ہیں..... یہ سامان تجارت ہیں..... یہ ہماری مصنوعات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں..... ہمیں اس امر سے کوئی غرض نہیں کہ وہ جاندار مخلوق ہیں یا نہیں۔“

یہ لوگ جذبہ رحم دلی اور ہمدردی سے یکسر عاری ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کی عکاسی جانوروں میں بھی ہوتی ہے..... پرندوں کو سامان تجارت کی طرح ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ان کی پروش غیر فطری خوارک سے کی جاتی ہے اور ان وہ ادویات دی جاتی ہیں جو انسانوں کے لیے لقسان دہ ہیں۔ یہ سب کچھ محض اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ جلد نشونما پائیں اور منافع کا باعث بنیں اور زیادہ سے زیادہ گوشت اور انڈوں کے حصول کو ممکن بنایا جا سکے۔ یہ لوگ محض اپنا منافع بنائے کے چکر میں ہوتے ہیں..... ان کو محض اپنا الوسیدہ کرنے سے غرض ہوتی ہے۔

انڈا بچوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ ایک مغالطہ اور دھوکا ہے کہ انڈے کا تعلق بزری کے خاندان سے ہے..... کوئی بھی انڈا بزری کے خاندان سے متعلق نہیں ہو سکتا..... یہ ایک حیوانی پیداوار ہے..... یہ بزری کی پیداوار کبھی نہیں کھلا سکتا۔

دوستواب میں معاشی پہلو کی جانب آپ کی توجہ مرکوز کرواؤ گا۔ میں نے بہت سے رسائل میں مطالعہ کیا ہے..... طبی سائنس کا مطالعہ کیا ہے..... اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گورنمنٹ ہند کے مکملہ شماریات کی روپورٹوں کا مطالعہ کرنے کے علاوہ گورنمنٹ آف امریکہ..... برطانوی گورنمنٹ وغیرہ کی روپورٹیں بھی ملاحظہ کی ہیں..... میں زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے آپ سے مختصر بات ٹکروں گا..... برطانیہ کے ایک سروے کے بعد یہ اکشاف کیا گیا ہے کہ:

”جانوروں سے گوشت حاصل کرنے کے لیے ان کی خوارک وغیرہ کاشت کرنے کے لیے بزری حاصل کرنے سے 14 گنا

زاند زمین کی ضرورت در پیش ہوتی ہے جو براہ راست انسانی خوراک بن سکتی ہے۔“

پہلے آپ چارہ کاشت کرتے ہیں..... آپ اسے جانوروں کو کھلاتے ہیں اور مابعد ان کا گوشت حاصل کرنے کی خاطر انھیں ہلاک کرتے ہیں اور اس طرح آپ اپنی گوشت خوری کا بندوبست کرتے ہیں..... لیکن اگر وہی زمین جو آپ جانوروں کے لیے چارہ کاشت کرنے کی خاطر بروئے استعمال لاتے ہیں..... اسی زمین کو اگر سبزیوں کی کاشت کے لیے بروئے استعمال لایا جائے..... دالیں کاشت کرنے کے لیے بروئے استعمال لایا جائے..... گندم کی کاشت اور دیگر زرعی اجتناس کی کاشت کے لیے بروئے استعمال لایا جائے..... زمین کا وہی نکٹرا کئی ایک زائد خاندانوں کی کفالت سرانجام دے سکتا ہے اور اس زمین کو چاگاہ کے طور پر استعمال میں لانے کی بدولت محض چند خاندانوں کی کفالت ممکن ہو سکے گی۔  
میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔

”10 ایکڑ رقبے پر مشتمل زمین دس انسانوں یا 10 مویشیوں کو سال بھر کی خوراک کا ذخیرہ فراہم کر سکتی ہے۔ لیکن 10 مویشی ایک شخص کی بھی خوراک کی سالانہ ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔“

جانور بائیو کمیکل کھاد کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہوتے ہیں..... ہم سالانہ کروڑوں روپے..... کروڑوں روپے کا زرمبا دلہ مصنوعی کھاد اور کمیکل کھاد کے درآمد پر صرف کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ انتہائی نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے..... لیکن چونکہ ہم قدرتی کھاد کے حصول میں ناکام رہتے ہیں..... کیوں ناکام رہتے ہیں؟..... کیونکہ یہ ہم مویشیوں سے حاصل کرتے ہیں اور مویشیوں کو ہم نیست و نابود کر رہے ہیں..... کیوں نیست و نابود کر رہے ہیں.....

انھیں اپنی خوراک بنانے کے لیے احتمانہ طور پر نیست و نابود کر رہے ہیں..... لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان جانوروں کے توسط سے ہم جو کھاد حاصل کرتے ہیں وہ نہ صرف زیادہ سستی پڑتی ہے بلکہ زیادہ صحت مند اور ہمارے ملک کے لیے زیادہ کارآمد بھی ثابت ہو سکتی ہے۔

یہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ ایک جانور کو خوراک کے طور پر 16 کلوگرام چارہ درکار ہوتا ہے اور اس 16 کلوگرام خوراک سے ایک کلوگرام گوشت کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ لہذا جانوروں کو اس لیے خوراک فراہم کرنا..... محض اس لیے ان کی نشوونما اور پرورش کرنا کہ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت حاصل کیا جائے ..... ملک کو اہم غذائی اجنباس سے محروم رکھنے کے متراوڈ جن سے بہت سے لوگ اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں..... لہذا نہ صرف چارہ اگانے کے لیے چاگا ہیں بنانے بلکہ گوبکے لیے بھی جگہ درکار ہوتی ہے۔

امریکہ کے ایک ماہر ڈاکٹر ولی ٹنچ کے مطابق کہ:

”جانور کے گوشت سے ایک کلوگرام حاصل کرنے کے لیے بزری

کی سات کلوگرام خرچ کی جاتی ہیں۔“

اس کا مطالعہ مزید کہتا ہے کہ:

”ایک جانور کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کا چارہ کاشت کرنے

کے لیے جتنی زمین درکار ہوتی ہے..... اس زمین سے پانچ

خاندانوں کی کفالت کی جاسکتی ہے۔“

دوستو میں آپ پر اعداد و شمار اور حقائق کا بوجھ نہیں لادنا چاہتا۔ قصہ

مختصر یہ کہ:

”گوشت کی بجائے بزری سے لوگوں کا پیٹ بھرنا ایک بہت ہی

ستعمال ہے۔“

آئیے اب ہم معيشت، ماحول، مذبح خانے وغیرہ پر ایک دوسرے زاویے سے غور کرتے ہیں۔ جانوروں کے گوشت کے حصول کی خاطر ہمیں زیادہ زمین درکار ہوتی ہے..... جانوروں کی پروش کے لیے ان کو کھلانے کے لیے زیادہ اناج کی ضرورت درپیش ہوتی ہے..... یہ سب کچھ ایک بار پھر ہمارے ماحول کے توازن میں خلل اندازی کا باعث ثابت ہوتا ہے کیونکہ وسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں اور ہمیں ان وسائل کا بہترین استعمال کرنا چاہیے اور ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہیے..... ہم یا تو فصلیں لگا سکتے ہیں یا گوشت کے حصول کی خاطر جانور پال سکتے ہیں..... دو کاموں میں سے ایک کام کر سکتے ہیں۔

آپ اس طریقہ کار پر بھی نظر دوڑائیں جس طریقہ کار کے تحت مذبح خانے کام کرتے ہیں..... ان کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے..... ان کی صورت حال غیر معیاری اور غیر صحیح مند ہوتی ہے..... حفظان صحیح کے اصولوں کی قطعاً پرواہ نہیں کی جاتی..... یہ صورت حال مایوس کن اور تشویش ناک ہوتی ہے اور یہ سب کچھ محض ترقی پذیر ممالک کا ہی الیہ نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہی کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔

کل مجھے انٹرنیٹ پر غیر ممالک کی ایک روپورٹ سے آشنا ہونے کا موقع میسر آیا تھا..... یہ ممالک ترقی یافتہ ممالک تھے مثلاً امریکہ اور فرانس وغیرہ..... کہ وہاں پر مذبح خانوں کی صورت حال تشویش ناک ہے اور یہ اکشاف کیا گیا تھا کہ ان کی صورت حال حفظان صحیح کے اصولوں کے عین منافی ہے۔ میرے پاس اس وائر پیپر کی ایک نقل موجود ہے جو حکومت امریکہ کے احتسابی پراجیکٹ نے شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے کہ:

”موت کے فرش پر میدان جنگ..... امریکہ کے خاندانوں کے

لیے زندگی اور موت کا مسئلہ۔"

جانوروں کو ذبح کرنا..... گوشت پر اس کرنے کے پلانٹ اور ان سب سے بڑھ کر حفظان صحت کے اصولوں کے انتہائی منافی نقل و حمل کے ذرائع اور گوشت کی فروخت وغیرہ..... ان سب نے مل جل کر گوشت کو انسانی استعمال کے لیے بالکل ناکارہ اور نقصان دہ بنا کر رکھ دیا ہے..... اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال سماں ہو کہ درآمد شدہ گوشت کے پیکٹ یا ڈبوں میں محفوظ کیا گیا گوشت حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق یا استعمال کے لیے محفوظ تصور کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہو گی۔ اس کے سوا کچھ نہ ہو گا..... میرے دوستوں وہ انہی منع خانوں سے آتا ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ وہ کوئی آسانوں سے اتر کر نہیں آتا..... اس کے علاوہ اسے محفوظ بنانے کے لیے کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے جو اسے مزید ضرر رساں بنا دالتا ہے یعنی سونے پر سہا گہ کا کام کرتا ہے۔ ماحولیاتی باخبری نے ہندوستان اور دیار غیر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبزی خوری کی جانب راغب کیا ہے۔ "ماحول دوست" سبزی پر مشتمل غذا میں اب مستیاب ہیں۔ اب تمام دنیا میں یہ رجحان پرورش پار ہا ہے کہ "ماحول دوست" سبزیوں پر مشتمل غذا کی جانب پیش قدمی کی جائے کیونکہ ان کو دوستانہ اور صحت مندانہ تصور کیا جاتا ہے۔

سبز فیکٹریاں (Green Factories) یا گریس ہاؤس (Grass House) اب بنا تاتی خواراک جن میں پھل بھی شامل ہیں ان ممالک کو برآمد کر رہے ہیں جو کہ اپنی آب و ہوا کی وجہ سے ان کے حصول سے محروم ہیں۔ ذرائع آمد و رفت کے موجودہ نظام نے بھی خواراک کے انتخاب میں بہت نعم البدل عطا کیا ہے۔

درحقیقت ترقی پذیر ممالک مثلاً ہندوستان ..... حکومتی اور غیر حکومتی اداروں کو سبزیوں کی زیادہ پیداوار کی طرف اپنی توجہ مبذول کروانی چاہیے اور ان کو زیادہ

سے زیادہ برآمد کرنا چاہیے۔ اس طرح ہماری ملکی معيشت پر بھی خوشنگوار اثرات مرتب ہوں گے۔

اب آئیے ماحولیاتی آلودگی پر بھی کچھ تبصرہ کرتے ہیں..... قانونی اور غیر قانونی مذبح خانے جس ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں وہ دہشت ناک اور خوفناک ہے..... مویشیوں کا فضلہ..... ان کا بہتباہ خون مزید ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ انسانی غذا کے لیے جانوروں کو لقمه بنانا کہاں کی دانش مندی ہے بلکہ ان کا زندہ رہنا ہمارے لیے سودمند ثابت ہوتا ہے کیونکہ جانور اور انسان دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے ہیں..... دونوں باہمی انحصار کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں..... تبھی وجہ ہے کہ بھیڑوں، مچھلی، گائے، مینڈ کوں وغیرہ کا زندہ رہنا ہمارے لیے سودمند ہے..... ان کو ہلاک کرنے کی نسبت ان کو زندہ رکھنا ہمارے حق میں بہتر ہے..... یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ ہم اپنے دوستوں اور اپنے معاونوں کو اپنے ہی ہاتھ سے ہلاک کریں؟..... وہ بھی محض اپنے چسکے کی خاطر..... اپنی لطف اندوڑی کی خاطر..... میرے دوستوں میں اس قدرے بے رحم اور ناشکرا نہیں ہونا چاہیے..... وہ ہم سے کمتر درجے کی مخلوق ہیں..... ہم انھیں جانور یا پرندے کہتے ہیں..... انھیں ایک اور نقطہ نظر کے تحت دیکھیں..... وہ قدرتی کھاد کی فراہمی کا باعث بنتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جانور مصنوعی کھاد کی نسبت زیادہ قدرتی اور صحیت مند کھاد فراہم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ مصنوعی کیمیکل اور کھاد فراہمیں ازحد مہنگی پڑتی ہے..... اب دوبارہ میں اپنی معاشی صورت حال کی طرف لوٹ رہا ہوں..... ہم مصنوعی کیمیکل درآمد کر رہے ہیں جن کو ہم بطور کھاد استعمال کرتے ہیں..... یہ ہمارے زر مبادله کو ضائع کرنے کا باعث بنتے ہیں۔

میرے دوستوں میں مختصر طور پر تاریخی اور جغرافیائی نقطہ نظر پیش کروں گا۔

میں اس کا مختصر اشارہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ تاریخی اعتبار سے کئی ایک خلک علاقوں میں میلوں تک صحراء پھیلا ہوئی ہے جہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی سبزی کاشت نہیں کی جاسکتی..... ان علاقوں میں زندہ رہنے کے لیے گوشت خوری کا سہارا لینا انتہائی ضروری تھا۔ جغرافیائی لحاظ سے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں..... مثلاً ایکسو..... ان کے پاس بھی کوئی نعم البدل موجود نہ تھا..... لیکن جب ہمیں ایک بہتر نعم البدل میرا آجائے جو کہ نہ صرف صحت مندی بلکہ معاشی لحاظ سے بھی برتر ہو تو ہم اس نعم البدل سے کیوں استفادہ حاصل نہ کریں؟

اب میں ایک انتہائی اہم لکنے کی جانب پیش رفت کروں گا جو کہ میرے نقطہ نظر کو بغیر کسی مشکل و شے کے ثابت کرنے میں معاون ثابت ہو گا کہ:

”انسان فطری طور پر کیوں سبزی خور ہے؟“

میرے پاس کم و بیش 20 نکات ہیں جن کا موازنہ درکار ہے.....

”ہمارے جسم نے کیسی ساخت پائی ہے۔“

جبیسا کہ مسٹر تریویدی نے نباتات خور اور گوشت خور دانتوں کا ذکر کیا تھا..... یعنی ہمارے دانت اور نوکیلے دانت..... اب میں پہلے سبزی خور دانتوں کے بارے میں کچھ تذکرہ پیش کروں گا..... نباتات خور جانوروں کے دانت ان کے جبڑوں میں جیسے ہوتے ہیں..... وہ چھوٹے..... کند اور ایک دوسرے کے قریب ترین ہوتے ہیں جبکہ گوشت خور درندوں کے دانت تیز..... نوکیلے اور لمبے ہوتے ہیں..... انسان بھی اس قسم کے دو یا چار دانتوں کا حامل ہوتا ہے..... نباتات خور جانوروں کے جبڑے اوپر اور نیچے..... دامیں اور باکی میں یعنی تمام ترسوں میں حرکت کرتے ہیں..... وہ چبانے کے بعد اپنی خوراک ہڑپ کر جاتے ہیں..... جبکہ گوشت خور درندوں کے ضمن میں ان کے جبڑے محض اور نیچے حرکت کرتے ہیں اور وہ چجائے بغیر اپنی

خوراک ہڑپ کر جاتے ہیں۔

دوستو اب آپ بذات خود موازنہ کرتے جائیں۔ میں محض نباتات خور یا گوشت خور کی اصطلاح استعمال کروں گا۔ یہ آپ روشن دماغ سامعین کرام کا کام ہے کہ وہ نوٹ فرمائیں کہ ہمارا انسانی جسم اور ہمارے انسانی جسم کے حصے کس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں..... نباتات خور جانوروں کے ساتھ..... یا گوشت خور درندوں کے ساتھ۔

زبان..... نباتات خور جانوروں کی زبان بالکل ہموار ہوتی ہے جبکہ گوشت خور درندوں کی زبان کھردی ہوتی ہے۔  
پانی پینے کی عادات..... یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے..... میرے دوستو..... ڈاکٹر پارس دلال نے مجھے بتایا تھا کہ:

”یہ نباتات خور جانور..... یہ اپنے ہونٹوں سے چکی لگاتے ہوئے پانی پیتے ہیں جبکہ تمام تر گوشت خور درندے اپنی زبان کے ساتھ پانی پیتے ہیں۔“

ہم بھی پانی پینے کے لیے اپنے ہونٹ استعمال کرتے ہیں۔

آئیے اب آنت کی لمبائی زیر غور لاتے ہیں..... نباتات خور جانوروں میں لمبی انتزیاں پائی جاتی ہیں..... یہ ان کے جسم کی لمبائی سے تقریباً چار گناہ اند لمبائی کی حامل ہوتی ہیں یہ گوشت پر مبنی خوراک کو جلدی باہر نکالنے میں معاون ثابت نہیں ہو سکتیں..... جبکہ گوشت خور درندوں میں چھوٹے سائز کی انتزیاں پائی جاتی ہیں جو کہ ان کی جسم کی لمبائی کے مساوی ہوتی ہیں اور گوشت پر مبنی غذا کو باہر نکالنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں پیشتر اس کے کہ وہ نجاست بن جائے۔

جگر اور گردنے..... نباتات خور جانوروں میں نبٹا چھوٹے سائز کے حامل

ہوتے ہیں الہدا وہ بہ آسانی ضائع شدہ مواد باہر نکالنے پھیلنے کے قابل نہیں ہوتے جبکہ گوشت خور درندوں کے جگہ اور گردے لمبے ہوتے ہیں الہدا وہ ضائع شدہ مواد بہ آسانی باہر پھیلنے کے قابل ہوتے ہیں۔

نظام ہضم..... بباتات خور جانوروں کے نظام ہضم میں ہائیڈروکلورک ایسٹ کم مقدار میں پایا جاتا ہے الہدا وہ گوشت بہ آسانی اور بخوبی ہضم نہیں کر سکتے جبکہ گوشت درندوں کے نظام ہضم میں ہائیڈروکلورک ایسٹ اور مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہ آسانی گوشت ہضم کر جاتے ہیں..... لیکن انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ لعاب دہن..... بباتات خور جانوروں میں انسانوں کی طرح لعاب دہن (Alkaline) کا حامل ہوتا ہے اور (Vitaline) کا بھی حامل ہوتا ہے جو کہ انانج میں پائے جانے والے کاربوبہائیڈریٹ کو ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے جبکہ گوشت خور درندوں میں..... ان کا لعاب دہن ہمیشہ تیزابی (Acidic) نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔

خون..... بباتات خور جانوروں میں انسانوں کی طرح پی انج گوشت خور درندوں میں (Acidic) ہوتا ہے..... اور گوشت خور درندوں میں (Alkaline) ہوتا ہے..... خون کی لپو پروٹین (Lipoprotein) ..... انسانی خون کی لپو پروٹین بباتات خور جانوروں سے مشابہ ہوتی ہے جبکہ یہ گوشت خور درندوں کے مشابہ نہیں ہوتی۔

حوال..... تمام تر حواس بالخصوص نظر..... بباتات خور جانوروں میں کمزور ہوتی ہے جبکہ گوشت خور درندوں میں حواس بالخصوص نظر انتہائی طاقتور ہوتی ہے۔ آواز..... بباتات خور جانوروں حتیٰ کہ انسانوں کی آواز خوفناک انداز لیے ہوئے نہیں ہوتی..... یہ ڈرایینے والی آواز نہیں ہوتی تاوقتیکہ ہم بذات خود اسے

خوفتاک اور ڈراؤنی بنانے پر نہ تلے ہوں لیکن تمام تر نباتات خوروں کی قدرتی آواز خوفتاک نہیں ہوتی جبکہ گوشت خور درندوں مثلاً شیر اور بہر شیر وغیرہ کی آواز خوفتاک اور ڈراؤنی ہوتی ہے اور اب آخر میں بچے ..... دیکھنے کی نارمل قوت ..... نباتات خوروں کے بچے زیر غور لا سیں ..... ان کی پیدائش کے لمحے سے ..... وہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں جبکہ گوشت خور درندوں کے بچے پیدائش سے تقریباً ایک ہفتے بعد تک دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔

دوستواب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ:

”فطري طور پر انسان کیا نباتات خور جانوروں کے درجے میں شامل ہوتا ہے ..... اناج خور ..... یا گوشت خور درندوں کے درجے میں شامل ہوتا ہے؟ ..... گوشت خور۔“

اب میں آپ کو کچھ ایسی شخصیات کے بارے میں بتاؤں گا ..... عظیم شخصیات کے بارے میں جھنوں نے گوشت خوری کی نہ مت کی تھی ..... دنیا کی تاریخ پر ایک نظر دھرا سیں ..... ہم دیکھیں گے کہ تمام تر عظیم مفکرین ..... فلاسفہ ..... سائنس دان ..... مثلاً آئن سائن ..... فن کار مثلاً لیونارڈو ..... ڈاوچی ..... شاعر مثلاً ملشن پوپ شیلے اور لکھاری مثلاً چارج برناڑشا ..... اور دنیا بھر کے مذہبی راہنماء ..... ریاضی دان ..... سائنس دان نبوثن اور آئن سائن ..... ڈاکٹر ایمنی بسانٹ ..... ڈاکٹر واٹر واٹ ..... چارج برناڑشا ..... ٹالشائی ..... یونانی فلاسفہ سقراط اور ارسطو ..... یہ تمام افراد روشن ذہن لوگ تھے ..... روشن دماغ لوگ تھے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ:

”وہ لوگ شریفانہ خصال ..... قوت برداشت ..... جذبہ ہمدردی اور رحم دلی ..... پیار اور عدم تشدد سے نوازتے جاتے ہیں جو گوشت خوری نہیں کرتے۔“

دوستو اب میں برناڑشا کا ایک قول پیش کروں گا..... برناڑشا جو کہ ایک  
نامور لکھاری تھا..... اس کا قول ہے کہ:

”هم ہلاک شدہ جانوروں کی زندہ قبریں ہیں۔“

سنودوستو وہ کیا کہتا ہے کہ:

”هم زندہ قبریں ہیں..... چلتی پھرتی قبریں ہیں..... حرکت پذیر  
قبریں ہیں۔“

کن کی زندہ قبریں ہیں؟

”ہلاک شدہ جانوروں کی زندہ قبریں ہیں۔ جن کو ہم نے اپنی  
بھوک منانے کی خاطر ہلاک کیا۔“

ایک مرتبہ برناڑشا مسٹر علامت پر دراز تھا..... وہ سخت بیمار تھا..... ڈاکٹروں  
نے اسے مشورہ دیا کہ:

”تمہیں گوشت کا شوربہ پینے کی حاجت ہے۔“

برناڑشا نے جواب دیا کہ:

”میں گوشت پر مشتمل کسی غذا کو استعمال کرنے کی بجائے مر  
جانے کو ترجیح دوں گا۔“

اور میرے دوستو یقین کرو کہ وہ صحت یا ب ہو گیا اور اُس کے اس عمل کی  
بدولت ڈاکٹر بھی بزری خور بن گیا۔

ای طرح مہاتما گاندھی..... اس کا بیٹا شدید علیل تھا..... اسے بھی گوشت کا  
شوربہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا..... اور اس نے بھی انکار کر دیا..... اور اس کا بیٹا  
بھی صحت سے ہمکنار ہو گیا۔ میرے دوستوں میں کیوں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں  
کہ مسٹر تیویدی نے کہا تھا کہ:

”ہاں طبی نکتہ نگاہ سے ڈاکٹر جو کچھ کہتا ہے ہمیں وہ تسلیم کرنا چاہیے۔“

اس میں کوئی شک نہیں لیکن جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا..... میں نے کہا تھا کہ:

”ہر چیز اہم ہے۔“

جب ڈاکٹر کچھ کہتا ہے ..... وہ محض ڈاکٹری نقطہ نظر کے تحت کہتا ہے ..... اور دوستو ہم اس روئے زمین پر آباد رہنا چاہتے ہیں لیکن ہماری آبادی دوسروں کی بربادی نہیں ہونی چاہیے۔

بہت بہت شکریہ دوستو ..... 21 دیں صدی سبزی خروروں کی صدی ہوگی۔  
میرے دوستو میرا خیال ہے کہ میں نے ایک سادہ طریقے سے اپنے نقطہ نظر کیوضاحت کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو عادی گوشت خور ہیں ..... وہ کسی بھی تہذیب ..... کسی بھی خاندان ..... کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ..... انہوں نے کبھی کبھی اپنے ذہن کو سبزی خوری کی طرف راغب نہیں کیا اور یہی وہ سب کچھ ہے جو مسٹر تیویدی نے بیان کیا ہے کہ:

”آئیے ..... آج ہم یہاں جمع ہیں ..... آئیے ہم اپنے ذہنوں کو استعمال کریں نہ محض مذہبی نقطہ نگاہ سے ..... نہ محض سماجی نقطہ نگاہ سے .....“

حتیٰ کہ میں نے ..... میں یہ کہنے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا کہ میں نے اپنے جین مت کے حامل افراد کو بھی دیکھا ہے ..... جب وہ کسی اجتماع میں شریک ہوتے ہیں ..... چونکہ وہ سماجی رتبے سے خائف ہوتے ہیں ..... وہ بھی گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں ..... میں اس حرکت کو قطعاً پسند نہیں کرتا ..... لیکن ہر کسی کے لپے

خواہ وہ سبزی خور ہو یا گوشت خور ہو..... یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا ذہن استعمال کرے..... ہر ایک نقطہ نظر اور ہر ایک زاویہ نگاہ کے تحت دیکھنے کی کوشش کرے کہ:

”کیا انسان کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز ہے۔“

اپنی صحت کے نقطہ نظر کے تحت..... قوی نقطہ نظر کے تحت..... سماجی نقطہ نظر کے تحت..... ماحولیاتی نکتہ نظر کے تحت اور سب سے بڑھ کر رحمدی اور جذبہ ہمدردی کے نقطہ نظر کے تحت.....

دوستو جب قدرت نے تمام مخلوق تخلیق فرمائی ہے..... جانور بھی تخلیق فرمائے ہیں..... انسان بھی تخلیق فرمائے ہیں..... تمام مخلوق برابر ہے..... کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو ہلاک کرے..... اور وہ بھی محض اپنی پیٹ پوچا کی خاطر..... شکریہ..... بہت بہت شکریہ۔

(تالیاں)

(ڈاکٹر محمد)

خواتین و حضرات..... اب ڈاکٹر ڈاکٹر اپنا خطاب پیش کریں گے۔

(ڈاکٹر ڈاکٹر)

قابل قدر مسٹر رائٹی بھائی زاویری ..... مسٹر تریویدی ..... ڈاکٹر محمد ناک .....  
معزز مہمانان گرامی ..... میرے عزیز بزرگو ..... میرے عزیز بھائیو اور بہنوں ..... میں  
آپ سب کو اسلامی طرز پر خوش آمدید کہتا ہوں .....  
اسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

(آپ سب پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو)

آج کے مباحثے کا عنوان:

”گوشت خوری انسان کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟“

ہے نہ کہ یہ عنوان ہے کہ:

”گوشت خوری یا سبزی خوری ..... کون سی خوراک صحت کے لیے

بہتر ہے۔“

اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ:

”ایک سبب“ ”ایک آم“ سے بہتر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں

کہ ”آم“ منوع قرار دے دیا گیا ہے۔“

اگرچہ میرا درج بالا بیان اس مباحثے کو پایہ تکمیل تک پہچانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن مجھے جواب ضرور دینا ہے۔

تعریف کے اعتبار سے گوشت خوری کا مطلب یہ ہے کہ:

”ایک شخص جو حیوانی ذرائع سے حاصل ہونے والی خوراک بھی

استعمال کرتا ہو۔“

اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ:  
 ”وہ شخص سبزی خوری نہ کرتا ہو یا نباتاتی خوراک استعمال نہ  
 کرتا ہو.....“

اس کا یہ مطلب نہیں کہ:  
 ”گوشت خور شخص ایک ایسا شخص ہے جو سبزی اور پھل  
 استعمال نہیں کرتا۔“

یہ نکتہ آپ سب حضرات پر واضح ہونا چاہیے۔  
 ایک اور فنی اور سائنسی اصطلاح ”ایک امنی و درس غذا“ ہے۔

#### (An omnivorous diet)

ایک شخص جو کئی اقسام کی غذا نہیں استعمال کرتا ہے ..... بالخصوص سبزی یا  
 نباتاتی خوراک اور حیوانی ذرائع سے حاصل ہونے والی خوراک مثلاً گوشت وغیرہ .....  
 اس کے لیے یہ فنی اور سائنسی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ ”سبزی خور“  
 (Vegetarian) جیسا کہ مسٹر رائٹی بھائی نے درست کہا ہے کہ یہ اصطلاح ”سبزی“  
 (Vegetable) سے نہیں نکلی بلکہ یہ وحیطاس (Vegetas) سے نکلی ہے جس کا  
 مطلب ہے کہ:

”سانس کی رمق سے بھر پور ..... زندگی کی رمق سے بھر پور۔“

انھوں نے اس کی زیادہ وضاحت پیش نہیں کی ..... ہم اس بارے میں مزید  
 بات کر سکتے ہیں مگر انھوں نے مزید وضاحت نہیں کی ..... کئی اقسام کے سبزی خور  
 موجود ہیں ..... ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو محض پھل اور گری دار میوه پر گزارہ کرتے  
 ہیں ..... ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ویدانت (Vedanta) کہلاتے ہیں۔ وہ کسی  
 بھی حیوانی غذا کو استعمال نہیں کرتے ..... کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ملکیوں سبزی

خور” (Lacto vegetarian) کھلاتے ہیں..... میرا خیال ہے کہ مسٹر راشی بھائی زاویری لوگوں کے اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں..... یہ لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں..... کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ”لیکٹو اند اووو سبزی خور“ (Lacto-ovo vegetarian) کھلاتے ہیں..... یہ لوگ انثے اور دودھ دونوں استعمال کرتے ہیں..... کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ”پیسو گو سبزی خور“ (Pesoco vegetarian) کھلاتے ہیں..... یہ لوگ مچھلی کھاتے ہیں..... کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ”نیم سبزی خور“ (Semi vegetarian) کھلاتے ہیں..... یہ لوگ مرغ کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔

یہ درجہ بندیاں سبزی خور سوسائٹی نے بنا رکھی ہیں..... ان درجہ بندیوں کو قائم کرنے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے..... میں ایسے مزید 20 اقسام کے لوگوں کی فہرست پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت اس امر کی اجازت نہیں دیتا۔

میں ڈاکٹر ولیم ٹی۔ جاروس کا ایک قول پیش کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر ولیم ٹی۔

جاروس کون ہے؟

\* امریکی کوسل برائے سائنس اور صحت کا ایڈ وائزر ہے۔

پیلک ہیلتھ اند ادی ادویات کا پروفیسر ہے۔ وہ یہ خدمات لومالنڈا یونیورسٹی میں سر انجام دے رہا ہے۔

\* وہ ہیلتھ فراؤز کے خلاف نیشنل کوسل کا بانی اور صدر بھی ہے۔

\* وہ کتاب ”دی ہیلتھ رو بزر“ (صحت کے لیئے) کا شریک مرتب ہے۔

ڈاکٹر موصوف کے مطابق وہ سبزی خوروں کو دو درجوں میں درجہ بند کرتا ہے.....

”استدلالی سبزی خور“ اور ”نظریاتی سبزی خور“

”استدلالی سبزی خور“..... یہ سبزی خور صحت کے قاضے منظر رکھتے ہوئے

اپنی غذا منتخب کرتا ہے..... وہ اپنے نظریے میں زیادہ استدلال پسند واقع ہوتا ہے جو  
نسبت جذباتی ہونے کے ..... دوسری طرف نظریاتی سبزی خور ..... یہ سبزی خور اپنی  
غذا کا انتخاب اس اصول کے تحت کرتا ہے جو کہ کسی نظریے پر بنیاد کرتا ہے ..... یہ  
زیادہ جذباتی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ استدلال پسند ہو اور ڈاکٹر ولیم نی۔ جاروس  
مزید کہتا ہے کہ:

”ایک نظریاتی سبزی خور اس امر سے پہنچانا جاتا ہے کہ وہ سبزی  
خوری کے فوائد بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔“

اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیشو و مقرر نے سبزی خوری کے فوائد بڑھا  
چڑھا کر بیان کیے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ بے انتہا سبزی خوری  
آپ کو صحت کو بھی داؤ پر لگا سکتی ہے۔ ڈاکٹر موصوف مزید کہتا ہے کہ:

”ایک نظریاتی سبزی خور اپنے آپ کو ایک سائنس دان ثابت  
کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک وکیل کی  
طرح ہوتا ہے ..... اور سائنس دان کی نسبت وکیل زیادہ دکھائی  
دیتا ہے۔“

اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیشو و مقرر کا خطاب ایک سائنس دان کی  
بجائے ایک وکیل کا خطاب معلوم ہوتا ہے ..... نظریاتی سبزی خور کا پیش کردہ مواد  
اگرچہ ایک اچھا خطاب تشكیل دے سکتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے ایسا ہی خطاب سناتھا  
لیکن یہ سائنسی نظریات پر پورا اترنے کے لائق نہیں ہوتا۔  
ڈاکٹر ولیم نی جاروس مزید کہتا ہے کہ:

”نفسیاتی سبزی خور منافقت سے بھرپور ہوتا ہے ..... وہ انتہا  
پسندی سے بھی معمور ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کی منافقت اور انتہا

پسندی سے ڈاکٹر اور سائنس دان بھی محفوظ نہیں ہوتے۔“  
اور آپ اس حوالے کو زیر غور رکھ سکتے ہیں..... مسٹر رائٹی بھائی زادبیری نے  
کہا تھا کہ:

”کئی ایک بیماریاں.....“

اور میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں ہر ایک کو جھلا سکوں..... ہر ایک سے  
انکار کر سکوں..... لیکن اگر وقت نے اجازت دی تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ سائنس کی  
بات کرتے ہوئے ان کا نظریہ ایک سائنسی نظریہ نہ تھا۔  
ہر قسم کی امراض سے بچا جاسکتا ہے۔

”پہیز علاج سے بہتر ہے۔“

طب کی بنیاد اسی مقولے پر استوار ہے..... وقت مجھے اجازت نہیں دے گا  
کہ میں صحت کے بارے میں تفصیل میں جا سکوں..... اپنے تردیدی بیان میں  
اگر وقت نے اجازت دی میں دیگر کئی ایک پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں  
گا..... اور ”صحت“..... میں کوشش کروں گا کہ اپنی تردید کے دوران اس پہلو پر بھی  
روشنی ڈالوں۔

آئیے ہم ان مختلف وجوہات کا تجزیہ کریں کہ کوئی شخص اپنی غذائی عادات کا  
انتخاب کیسے کرتا ہے:

- یہ انتخاب مذہبی بھی ہو سکتا ہے۔
- یہ انتخاب جغرافیائی صورت حال کے پیش نظر بھی ہو سکتا ہے۔
- یہ ذاتی انتخاب بھی ہو سکتا ہے۔
- یہ انتخاب ذاتی..... رنگ اور خوبیوں کا مرہون منت بھی ہو سکتا ہے۔
- یہ انتخاب انسانی یا اخلاقی اقدار کا مرہون منت بھی ہو سکتا ہے۔

- یہ انتخاب نفیا تی وجہات کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے۔
- یہ انتخاب چال ڈھال اور عمل درآمد کا مر ہون منت بھی ہو سکتا ہے۔
- یہ انتخاب غذا بیت کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے۔
- یہ انتخاب صحت اور سائنسی بنیادوں پر بھی ہو سکتا ہے۔
- آئیے پہلے ہم مذہبی وجہات کا تجزیہ کریں۔

مشتری یو یڈی نے فرمایا تھا کہ:

”مذہب کو انسانی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے..... اور یہ کہ ہمیں یہ سب کچھ ایک ڈاکٹر پر چھوڑ دینا چاہیے۔“

مذہبی اتحارثی ..... بڑی اور عظیم بنیاد ..... وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے ..... اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے ..... وہ خدا جس کو آپ پوچھتے ہیں ..... جس کی آپ پرستش کرتے ہیں ..... جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ..... اگر وہ ڈاکٹر نہیں تو آپ کو اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔  
وہ کہتا ہے کہ:

”اسے ایک ڈاکٹر پر چھوڑ دینا چاہیے۔“

لیکن اسلام میں:

”ہم اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارا خالق ہے ..... اور انسانوں کا خالق انسانوں کے بارے میں بہترین اور پرتر علم رکھتا ہے۔ اگر دنیا کے تمام ڈاکٹروں کے تمام تر برسوں کے علم اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ اس کے علم کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں بن سکتے۔“

اور آپ غور کر سکتے ہیں مشر راشمی بھائی زاویری کے بیان پر کہ:  
”کہ تمام تر اخصار ڈاکٹروں پر۔“

وہ ان کتب کے حوالے سے بات کر رہا ہے میرے خیال کے مطابق جو اس  
ہال سے باہر فروخت ہو رہی ہیں ..... برائے فروخت موجود ہیں ..... میں ان تمام تر  
نکات پر بات کروں گا ..... ان میں سے اکثریت ایسے نکات کی ہے جو کہ فرضی، بناوٹی  
اور خود ساختہ ہیں ..... ان کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے ..... کچھ غیر متعلقہ  
ہیں ..... کچھ غیر مصدقہ ہیں ..... اور کچھ حقیقی ہیں ..... وہ بھی آدھے پکے ہوئے  
ہیں ..... پورے پکے ہوئے نہیں ہیں ..... میں ایک بات مکمل طور پر واضح کر دینا  
چاہوں گا کہ:

”جب میں یہ ثابت کر رہا ہوں گا کہ گوشت خوری انسان کے  
لیے جائز ہے اور انسان کو گوشت خوری کی اجازت فراہم ہونی  
چاہیے ..... اس دوران میری ذرہ برا بر بھی یہ نیت نہیں ہو گی کہ  
میں کسی سبزی خور کے جذبات مجبور کروں اور بلکہ میں منطقی اور  
سامنی حوالوں سے یہ ثابت کروں گا کہ گوشت خوری انسان کے  
لیے جائز ہے ..... انسان کو اس کی اجازت فراہم ہے اور اگر اس  
امر سے کسی کے جذبات اور احساسات مجبور ہوتے ہیں تو میں  
اس سے پیشگی معدرنت طلب کر رہا ہوں ..... میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ  
پیشگی معدرنت خواہ ہوں ..... میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ  
معدرنت خواہ ہوں ..... میری نیت کسی کے جذبات کو مجبور کرنا  
نہیں ہے لیکن میں نے اپنے پیشو و مقرر کے بیان کردہ نکات  
کا جواب بھی دینا ہے۔“

جہاں تک اسلام کا تعلق ہے:

”اسلام انسان کو اس امر کا پابند نہیں کرتا کہ وہ لازماً گوشت خوری کرے..... ایک مسلمان اگر محض بزری خوری کرتا ہے تو وہ بھی ایک بہتر مسلمان ہو سکتا ہے۔ لیکن..... لیکن جب ہمارا خالق..... خدا تعالیٰ ..... اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اجازت فراہم کرتا ہے کہ ہم گوشت خوری بھی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں اپنے خالق کی اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھائیں۔“

اور میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن پاک کی سورۃ مائدہ ..... سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 1 کے حوالے سے کیا تھا۔ جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

”اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو۔ تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر جو آگے سنایا جائے گا تم کو۔“

قرآن پاک سورۃ نحل ..... سورۃ نمبر 16 ..... آیت نمبر 5 میں مزید فرماتا ہے کہ: ”اور چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور مُنفعتیں اور ان میں سے کھاتے ہو۔“

آئیے ہم جغرافیائی و جوہات اور ماحولیاتی صورت حال کا جائزہ لیں ..... اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ انسانی نہادی عادات پر اثر انداز ہوتا ہے ..... مثال کے طور پر جو لوگ سلطی علاقوں میں آباد ہیں ..... وہ محملی زیادہ استعمال کرتے ہیں ..... جو لوگ جنوبی ہند میں رہائش پذیر ہیں وہ چاول کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ..... جو لوگ ریگستانی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں وہاں پر سبزیوں کی قلت پائی جاتی ہے اور ان علاقوں کے رہائشی زیادہ تر گوشت خوری پر اعتماد کرتے ہیں۔ ایکسو ..... وہ بھی سبزی کی نعمت سے محروم ہیں اور زیادہ تر سمندری خوراک پر گزارہ

کرتے ہیں اور مسٹر زاویری نے کہا ہے کہ:

”وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے کئی علاقوں میں سبزیاں دستیاب نہیں

ہیں..... لیکن آج کل ذراائع نقل و حمل اتنے ترقی یافتہ اور برق

رفار ہو چکے ہیں کہ ہم ان علاقوں کو سبزی برآمد کر سکتے ہیں۔“

میں ہندوستانی سبزی خوروں کی کانگرس سے درخواست کروں گا کہ:

”وہ کم از کم اس نقل و حمل کا خرچہ برداشت کرے جو اسکے معاور

سعودی عربیہ تک سبزی پہنچانے کے لیے درکار ہوگا۔“

اگر آپ سعودی عربیہ سبزی برآمد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک زیادہ لاغت کا

حامل کام ہوگا۔ کیوں؟ ..... کیونکہ نقل و حمل کا خرچہ ..... یہ بہت زیادہ اٹھے گا اور سبزی

کو مہنگا ترین بنادے گا۔ یہ غیر منطقی فعل ہے ..... اور غیر سائنسی فعل بھی ہے کہ اس غذا

کے لیے کثیر رقم خرچ کی جائے جو غذائی اعتبار سے بھی کم غذائیت کی حامل ہو۔

آئیے اب ہم ”ہمدردی پرمنی و جوہات“ اور ”اخلاقی و جوہات“ کا تجزیہ کریں:

اور خاص سبزی خور یہ کہتے ہیں کہ:

”ہر ایک زندگی مقدس ہے اور کسی بھی جاندار مخلوق کو ہلاک نہیں

کرنا چاہیے۔“

وہ یہ محسوس کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ آج کل ..... یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ:

”پودے (نباتات) بھی زندگی رکھتے ہیں۔ وہ بھی جاندار مخلوق

کے زمرے میں آتے ہیں۔“

الہدا ان کی یہ بڑی دلیل (ان کی دانست میں) کہ:

”جاندار مخلوق کو ہلاک کرنا۔“

آج کل اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔

سابقہ ادوار میں ..... ممکن ہے دو صدیاں پیشتر ..... عین ممکن ہے کہ ان کی یہ دلیل کچھ وزن رکھتی ہو لیکن آج کل یہ کوئی وزن نہیں رکھتی ..... کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ آج کل وہ مزید دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

”ہاں ..... ہم جانتے ہیں کہ نباتات بھی زندگی رکھتے ہیں ..... وہ بھی جاندار مخلوق ہیں لیکن ان کو درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ..... لہذا ایک پودے کو ہلاک کرنا ..... نباتات کو ہلاک کرنا کسی جانور کو ہلاک کرنے کے مقابلے میں کم تر درجے کا حامل گناہ ہے۔“

آج کل سائنس ترقی کی مزید منازل طے کر چکی ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ ”نباتات بھی درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں ..... وہ روتے بھی ہیں ..... لیکن ان کا روتا انسانی کان نہیں سن سکتے کیونکہ انسان کان کی قوت ساعت کی حد 20 سائیکلز فی سینٹ سیکنڈ تا 20,000 سائیکلز فی سینٹ سیکنڈ ہوتی ہے ..... اس حد سے تیچے یا اوپر کوئی بھی آواز انسانی کان نہیں سن سکتے۔“

(تالیاں)

جانور کے رونے اور چینختے کی آواز انسانی کان بخوبی سن سکتے ہیں ..... لیکن نباتات کے رونے دھونے اور چینختے چلانے کی آواز انسانی کان نہیں سن سکتے ..... اگر آپ نباتات کے رونے دھونے اور چینختے چلانے کی آواز نہیں سن سکتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ان کو درد میں بمتلا کریں یا ہلاک کریں تو آپ کا یہ امر آپ کے لیے جائز قرار پائے گا۔

ایک ”نظریاتی سبزی خور“ تھا ..... وہ میرے ساتھ بحث کرنے لگ گیا۔ اس

نے مجھے بتایا کہ:

”ذاکر بھائی..... میں جانتا ہوں کہ نباتات بھی زندگی کے حامل ہوتے ہیں..... وہ بھی جاندار مخلوق ہیں..... وہ بھی درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں..... لیکن آپ جانتے ہیں کہ نباتات..... ان کے دو حواس کم ہوتے ہیں..... جانوروں کے مقابلے میں ان کے دو حواس کم ہوتے ہیں۔“

میں نے اسے جواب دیا کہ:

”فرض کرو کہ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نباتات کے دو حواس کم ہوتے ہیں..... جانوروں کی نسبت ان کے دو حواس کم ہوتے ہیں.....“

لیکن اس کے بعد میں نے اس سے ایک سادہ سما سوال پوچھا کہ:  
 فرض کرو کہ تمہارا بھائی پیدائشی گونگا اور بہرہ ہے..... وہ سن نہیں سکتا..... بول نہیں سکتا..... یعنی اس کے دو حواس کم ہیں..... اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے..... کوئی شخص آتا ہے اور اسے قتل کر ڈالتا ہے..... کیا تم نجح کے پاس جا کر اسے یہ کہو گے کہ:  
 ”نجح صاحب قاتل کو کم سزا دیں کیونکہ میرے بھائی کے دو حواس کم تھے۔“

میں نے اس سے مزید کہا کہ:

”تم جو کچھ نجح سے کہو گے وہ یہ ہو گا کہ نجح صاحب قاتل نے ایک معصوم شخص کو ہلاک کیا ہے..... اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دیں۔“  
 اور اگر ہم اس امر کا تجزیہ سر انجام دیں کہ:

”جہاں تک جاندار مخلوق کا تعلق ہے اسلام اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے..... انسانی مخلوق جو ایک جاندار مخلوق ہے اور غیر انسانی جاندار مخلوق۔“

جہاں تک انسانی مخلوق کو ہلاک کرنے کا تعلق ہے اس ضمن میں اس سلسلے میں قرآن پاک فرماتا ہے..... سورۃ مائدہ..... سورۃ نمبر 5..... آیت نمبر 32 کہ:

”جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بد لے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بچالیا اور اس نے گویا سب لوگوں کو بچالیا۔“

جہاں تک غیر انسانی جاندار مخلوق کا تعلق ہے..... کسی بھی انسان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ انھیں غیر ضروری طور پر نقصان پہنچائے..... انھیں غیر ضروری طور پر ہلاک کرے..... کھیل کھیل میں انھیں ہلاک کرے..... اپنے کھیل تماشے کے لیے انھیں ہلاک کرے..... یا انشانہ بازی کے لیے انھیں ہلاک کرے..... اس امر کی قطعاً اجازت نہیں ہے..... اگر آپ کو اپنا تحفظ درکار ہو..... اپنی سلامتی درکار ہو..... تب آپ انھیں روک سکتے ہیں حتیٰ کہ ہلاک بھی کر سکتے ہیں..... یا اگر آپ حلال خوراک کے طلب گار ہیں تو آپ حلال جانور ذبح کر کے ان کو اپنی خوراک بناسکتے ہیں..... لیکن کھیل تماشے یا انشانہ بازی یا شکار کی غرض سے آپ جانوروں کو ہلاک نہیں کر سکتے۔

اگر آپ ایک جانور کی زندگی لیتے ہیں..... ایک اوست طریقہ کے جانور کو اگر آپ ذبح کرتے ہیں..... یہ تقریباً 100 انسانوں کی خوراک بن سکتا ہے..... دوسری طرف انہی 100 انسانوں کو خوراک مہیا کرنے کی غرض سے آپ کو 100 سے زائد پودے (نباتات) ہلاک کرنا ہوں گے۔

”کیا یہ قابل ترجیح عمل نہیں ہے کہ ایک سو جاندار پودوں

(نباتات) کی جان لینے کی بجائے ایک جاندار جانور کی جان  
لی جائے؟“

کون سا گناہ بڑا ہے؟

کیا یہ گناہ بڑا ہے کہ ان انسانوں کو ہلاک کر دیا جائے جو مذدور ہیں یا ایک  
صحت مند انسان کو ہلاک کر دیا جائے؟..... کون سا گناہ بڑا ہے؟..... آپ بذات خود  
فیصلہ کریں۔

ایک بزری خور سوسائٹی موجود ہے جس کا نام.....

”تمام جانداروں کے احترام کی عالمی فاؤنڈیشن۔“

بہت سے حوالے جو میرے پیشو و مقرر نے پیش کیے ہیں وہ اس سوسائٹی اور  
ان تین عدد کتابوں سے دیے ہیں..... تقریباً تمام تر حوالے..... اس فاؤنڈیشن کا نام.....  
”تمام جانداروں کے احترام کی عالمی فاؤنڈیشن۔“

ہے۔ لیکن وہ یہ لکھنا بھول گئے ہیں کہ:

”مساوی نباتات کے۔“

یہ جملہ انھیں بریکٹ میں تحریر کرنا چاہیے تھا۔

اور یہ کہتی ہے کہ:

”تمام مخلوق ایک کنہ ہے..... ایک خاندان ہے..... تمام جانشی

مقدس ہیں۔“

یہ کس قسم کا نظریہ ہے کہ:

”آپ اپنے خاندان کے ایک رکن کو ہلاک کرنے کی اجازت  
弗اہم کر رہے ہیں اور دوسرے رکن کو ہلاک کرنے کی اجازت  
نہیں دے رہے؟“

یہ غیر منطقی اور غیر سائنسی نظریہ ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ:

”امریکہ میں سبزی خور سو سائیٹیاں موجود ہیں جو طالب علموں کو  
منہج خانوں میں لے جاتی ہیں اور وہ انھیں جانوروں کا خون بتتا  
دکھاتی ہیں اور ان کو سبزی خوری کی جانب راغب کرتی ہیں۔“

یہ عمل بالکل اسی طرح ہے جس طرح.....

”ایک ڈاکٹر نوجوان لڑکیوں کو بچے کی پیدائش کا ایک پیچیدہ کیس  
دکھانے کے لیے لے آئے اور مابعد یہ کہے کہ:  
یہی وجہ ہے کہ آپ شادی نہ کریں..... اور بچے پیدا کرنے سے  
اپنے آپ کو بچائیں۔“

ذہن کو کنٹرول کرنے کی یہ غیر اخلاقی اقسام ہیں..... غیر اخلاقی..... حقیقت  
میں ہمیں اپنے بچوں کو باور کروانا چاہیے کہ:

”جب حصول خوراک کی خاطر سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں تب  
حصول خوراک کی خاطر جانور کیوں نہیں پالے جاسکتے۔“

تمام جانیں مقدس ہیں..... میں اس امر سے اتفاق کرتا ہوں..... کسی بھی  
جان کو غیر ضروری طور پر ہلاک کرنا غلط ہے..... لیکن اپنی ضروریات کی تکمیل کے  
لیے..... حلال خوراک کی اجازت ہے..... حلال غذا کی اجازت ہے۔

آئیے اب بیماریوں کے نقطہ نظر سے تجزیہ سرانجام دیں..... میرے پیش رو  
مقرر نے کئی ایک چیزوں کی پوری فہرست گنوائی تھی..... آپ جانتے ہیں کہ وہ تحریری  
تقریب 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پڑھ رہے تھے..... میں کوشش کرتا رہا کہ نوٹ  
کروں کہ انھوں نے کتنی بیماریاں شمار کی ہیں..... میں ایک طبی ڈاکٹر ہونے کی حیثیت

سے جواب پیش کر سکتا ہوں ..... وس بیماریاں ..... ان کا نام شمار کرتے ہوئے محض چند سیکنڈ درکار ہوتے ہیں اور ان وس بیماریوں کا جواب پیش کرنے میں ایک گھنٹے سے زائد عرصہ درکار ہوگا ..... بشرطیکہ آپ ایسی کتابوں کا حوالہ پیش کریں جو سند کا درجہ رکھتی ہیں ..... مستند کتابیں ..... نہ کہ وہ تحقیق جو نظریاتی سبزی خروروں نے سرانجام دی ہو ..... بہت سے جوابات طبی پہلو کے تحت دیے گئے ہیں اور انہوں نے صحیح کہا ہے کہ:

”اگر آپ نباتات خور جانوروں کے دانتوں کا جائزہ لیں ..... گائے ..... بکری ..... بھیڑ وغیرہ ..... ان کے دانت ہموار ہوتے ہیں ..... وہ محض نباتات پر گزارا کرتے ہیں۔“

اگر آپ گوشت خور جانوروں کے دانتوں کا جائزہ لیں تو ان کے دانت نوکدار ہوتے ہیں مثلاً شیر، ببر شیر وغیرہ۔

لیکن اگر آپ انسانی دانتوں کا جائزہ لیں تو یہ دانت ہموار اور نوکیلے دونوں اقسام کے دانتوں پر مشتمل ہیں۔

اگر خدا تعالیٰ ..... ہمارا خالق ..... یہ چاہتا کہ ہم محض سبزی خوری کریں ..... محض نباتاتی غذا پر اکتفا کریں تو اس نے ہمیں نوکدار دانت کیوں عطا کیے؟“

اگر آپ انسانی نظام ہضم کی تشریع کریں ..... یہ دونوں اقسام کی غذا میں ہضم کرنے پر قادر ہے ..... یہ گوشت پر مشتمل غذا میں بھی ہضم کر سکتا ہے اور سبزی پر مشتمل غذا میں بھی ہضم کر سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ سبزی خوری اور گوشت خوری دونوں مقاصد کے لیے یکساں مفید ہے۔ اگر خدا تعالیٰ یہ چاہتا کہ ہم محض سبزی خوری کریں تو وہ ہمیں کیوں ایسا نظام ہضم عطا فرماتا جو سبزی خوری اور گوشت دونوں مقاصد کے لیے یکساں مفید ہو؟

اور مسٹر زاویری ..... میرے پیشو و مقرر نے یہ کہا ہے کہ:

”ہم کچا گوشت ہضم نہیں کر سکتے۔“

میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ:

”بہت سے انسان کچا گوشت استعمال نہیں کر سکتے..... بالکل اسی طرح بہت سے لوگ کچی سبزیاں نہیں استعمال کر سکتے..... کچی باتاتی غذا..... مثلاً گندم چاول..... وغیرہ کچے استعمال نہیں کر سکتے..... کیا آپ انھیں کچا استعمال کر سکتے ہیں؟“

مزید برآں.....

”کیا آپ کچی دالیں استعمال کر سکتے ہیں؟“

آپ بدھضی اور نظام ہضم کی خرابی کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا یہ کیا دلیل ہوئی؟ نہیں..... آپ کو انھیں پکا کر استعمال کرنا ہوگا..... ایک طبقی ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں یہ جانتا ہوں کہ:

”اگر آپ کچی گندم..... کچے چاول..... کچی دالیں استعمال کریں گے..... آپ مسائل کا شکار ہوں گے..... آپ انھیں ہضم نہیں کر سکتے..... لہذا آپ ان کو پکا کر استعمال کریں گے۔ یہی کچھ گوشت کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، ہم گوشت خور..... ہم انھیں اس لیے پکاتے ہیں تاکہ انھیں ہضم کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ انسان ایسے ہیں جو کچا گوشت کھاتے ہیں۔“

میرے پیشو و مقرر نے اسکیو کا بھی ذکر کیا تھا..... وہ اس لفظ کے معانی سے آشنا نہیں رکھتے..... اسکیو کے لغوی معانی ہیں کہ:

”کچی مچھلی کھانے والے۔“

لہذا.....

”ایسے انسان بھی موجود ہیں جو کچا گوشت بھی کھا جاتے ہیں.....  
وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں..... کل اگر آپ کچی گندم اور کچے  
چاول کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں..... تو آپ ان کو ہضم  
کرنے بھی قادر ہو سکتے ہیں۔“

لیکن بہت سے انسان کچی سبزیاں ہضم نہیں کر سکتے..... اس کا یہ مطلب  
نہیں کہ آپ کو چاول نہیں کھانے چاہئیں..... آپ کو گندم نہیں کھانی چاہیے..... آپ  
کو دالیں نہیں کھانی چاہئیں۔  
مزید برآں ابتدائی دور کے انسان جیسا کہ پہلے مقرر کے علاوہ مہمان  
خصوصی نے بھی کہا کہ:

”آثار قدیمه کے شواہد یہ واضح کرتے ہیں..... کہ ابتدائی دور  
کے انسان گوشت خور تھے۔“

لہذا اب تبدیلی کیوں؟  
ہم بھی وہی دانت رکھتے ہیں..... وہی نظام ہضم رکھتے ہیں۔ میرے پیشو  
مقرر نے موازنے کی ایک فہرست بھی پیش کی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمیں محن  
سبزی خوری کرنی چاہیے..... میں اس امر سے اتفاق کرتا ہوں.....  
”میں نے کب کہا ہے کہ آپ کو سبزیاں نہیں کھانی چاہئیں.....  
ایک گوشت خور شخص وہ شخص ہوتا ہے جو گوشت خوری کے علاوہ  
سبزی خوری بھی کرتا ہے۔“

میرے پیشو و مقرر نے یہ بھی کہا کہ گوشت خور جانوروں کے جگر اور گردے  
بڑے ہوتے ہیں اور انسانی گردے اور جگر چھوٹے ہوتے ہیں جس طرح نباتات خور

جانوروں کے ہوتے ہیں..... کیونکہ جانوروں نے کچا گوشت کھانا ہوتا ہے..... لہذا انہوں نے زہریلا مواد زیادہ مقدار میں خارج کرنا ہوتا ہے..... ہم خوراک پکا کر کھاتے ہیں..... لہذا خدا نے ہمیں چھوٹے گردے اور چھوٹا جگر دیا ہے جو کہ اس قابل ہے کہ پکائی گئی گوشت اور سبزی دونوں پر مشتمل غذا میں بخوبی ہضم کر سکے۔

اسی طرح ایچ سی ایل کی دلیل ..... یہ زیادہ تیزابی نہیں ہوتا..... کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی..... اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو خدا آپ کو غیر ضروری طور پر کیوں عطا فرمائے؟ یہی کچھ لعاب وہن..... خون کے پی ایچ اور پی پروٹین کے ساتھ ..... یہ تمام دلائل اس لیے ہیں کہ کیونکہ جانوروں نے کچا گوشت کھانا ہوتا ہے..... لہذا انھیں اس کی ضرورت ہے..... ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے..... لہذا خدا کیوں ہمیں عطا کرتا؟

میرے پیشو و مقرر نے یہ بھی کہا کہ گوشت خور درندے اپنی زبان کے ساتھ پانی پیتے ہیں جبکہ نباتات خور جانور اپنے ہونتوں سے چکلی لگاتے ہوئے پانی پیتے ہیں..... ہم انسان دونوں طرح پانی پی سکتے ہیں..... جب ہم پانی پیتے ہیں جبکہ ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں ہم چکلی لے کر پیتے ہیں..... لیکن جب ہم آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے زبان کے ساتھ چاٹ کر کھاتے ہیں..... ہم چاٹتے بھی ہیں اور چکلی لے کر بھی پیتے ہیں..... یہ اس غذا پر منحصر ہے جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں..... حتیٰ کہ ہم چائے کو بھی چاٹ سکتے ہیں..... وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم زبان کے ساتھ چاٹ نہیں سکتے۔ لیکن میں یہ چیزیں شمار کرنے میں وقت کیوں ضائع کروں؟ یہ امر مزید وقت ضائع کرنے کا باعث ثابت ہو گا۔

اسی طرح میرے پیشو و مقرر کے تمام تر دلائل جو اس نے دانتوں کے بارے میں..... کہ دانت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے سبزی

خوری بھی کرنی ہوتی ہے..... اگر خدا نے ہمیں بزری خوری سے منع فرمایا ہوتا..... تب ممکن تھا کہ ہمارے دانت آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے ..... فاصلے پر ہوتے ..... خدا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دونوں طرح کی غذا میں استعمال کریں ..... گوشت خوری بھی کریں ..... اور بزری خوری بھی کریں۔

اور قرآن پاک میں کئی ایک آیات ایسی ہیں جن میں کئی ایک غذاوں کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے ..... بزریوں کے بارے میں ذکر ہے ..... کھجوروں کے بارے میں ذکر ہے ..... وہ غذا میں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔  
نباتات ..... پودے وغیرہ ..... بہت سے بزری خوری یہ کہتے ہیں کہ:  
”وہ دوبارہ اگ آتے ہیں لہذا ہم نباتات کو ہلاک نہیں کر رہے ہوتے۔“

کچھ نباتات (پودے) ایسے ہیں جو اس خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن تمام تر پودے اس خصوصیت کے حامل نہیں ہوتے۔ کئی ایک نباتات ایسے ہیں ..... کئی ایک پودے ایسے ہیں جن کو کاٹ دو تو وہ دوبارہ اگ آتے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی مناسب دلیل نہیں ہے ..... ایک وزنی دلیل نہیں ہے کہ:  
”چونکہ وہ دوبارہ اگ آتے ہیں لہذا آپ کو بزری خوری کرنی چاہیے؟“

آپ جانتے ہیں کہ:  
”اگر آپ چھپکلی کی دم کاٹ دیں تو وہ دوبارہ اگ آتی ہے ..... تو کیا آپ چھپکلی کی دم کھانا شروع کر دیں گے؟“  
یہ بھی ایک غذا ہے ..... ایسے انسان بھی موجود ہیں ..... مثلاً آسٹریلیا کے قدیم باشندے ..... وہ چھپکلی بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔  
اگر آپ سے کہا جائے کہ:

”کیا آپ چھپکلی کی دم کھائیں گے؟“

آپ کا جواب ہو گا کہ:

”نہیں۔“

آپ جانتے ہیں:

”میں اب کیا کر رہا ہوں؟“

میں اب جو کچھ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ:

”میں ایک وکیل جیسا عمل درآمد کر رہا ہوں۔“

اگرچہ میں ایسی باتوں کا جواب دیتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہوں لیکن مجھے جواب دینے ہیں کیونکہ یہ ایک مباحثہ ہے..... میں اسی مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور دوستانہ ماحول میں پیش رفت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن مجھے ایک وکیل جیسا طرز عمل بھی اپنانا ہے..... منطقی اور سائنسی وظیرہ اپنانے کے علاوہ مجھے ایک وکیل جیسا وظیرہ بھی اپنانا ہے کیونکہ میرے پیشو و مقرر نے دلائل ہی ایسے پیش کیے ہیں کہ وکیل کا وظیرہ اپناۓ بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔

یہ ایسے دلائل ہیں جن کا جواب ایک جز ل نالج کا حامل کوئی بھی شخص بہ آسانی دے سکتا ہے..... لیکن چونکہ تمام لوگ جز ل نالج کے حامل نہیں ہوتے..... بہت سے لوگ جز ل نالج سے آشنا نہیں ہیں..... یہی وجہ ہے کہ ان دلائل سے بہت سے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں..... اور یہ تمام دلائل ان کتب میں پیش کیے گئے ہیں جو تقسیم کی گئی ہیں.....

”گوشت خوری ..... 100 حقائق۔“

اس کا مصنف نبی چند ہے..... اور یہ جیسی مت کے ادارے کی جانب سے

نقیم کی گئی ہیں..... ان کی تقسیم میں ہندوستانی سبزی خور کا نگرہ کا بھی ہاتھ ہے۔  
یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ مجھے مشرزادیری نے دی تھیں۔

✿ اٹھے کے بارے میں 100 حقائق

✿ سبزی خوری یا گوشت خوری

ہر ایک دلیل بہ آسانی رد کی جاسکتی ہے..... کئی ایک باتوں کے بارے میں  
میں جانتا ہوں کہ:

”گوشت خوری بیماریوں کا باعث بھی بن سکتی ہے لیکن ان  
بیماریوں سے پچتا بھی ممکن ہے۔“

آئیے اب ہم کردار اور عادات کے مسئلے کی جانب بڑھتے ہیں۔

میرے پیشہ و مقرر نے کئی ایک دلائل دیے ہیں کہ:

”جوندا..... جو خوراک ہم کھاتے ہیں..... وہ ہمارے عمل.....  
ہماری عادات و اطوار پر اثر انداز ہوتی ہے۔“

کسی حد تک میں ان کی اس دلیل سے اتفاق کرتا ہوں کہ:

”جوندا ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے عمل..... ہماری عادات و اطوار  
پر اثر انداز ہوتی ہے۔“

اور یہی وجہ ہے کہ:

”ہم مسلمان محض نباتات خور جانوروں مثلاً بھیڑ..... کبری.....  
گائے وغیرہ کا گوشت لھاتے ہیں جو کہ امن پسند جانور ہیں اور  
فرمانبردار جانور بھی ہیں..... یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان فرمانبردار  
اور امن سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں..... ہم گوشت خور  
درندوں مثلاً شیر..... ببر شیر..... سور..... چیتا..... کتے وغیرہ کا

گوشت نہیں کھاتے ..... اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ تمام تر جانور ہمارے لیے منوع ہیں ..... حرام ہیں ..... ہم ان پسند لوگ ہیں ..... لہذا ہم انھیں جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جو اُن پسند ہیں۔"

اور آپ کی دلیل کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ:

"چونکہ آپ نباتات کھاتے ہیں ..... اس لیے آپ نباتات جیسا عمل اپناتے ہیں۔"

سامنی نقطہ نظر کے تحت میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے ..... میں محض ایک وکیل کا طرز عمل اپنائے ہوئے ہوں ..... مجھے ایسے نکات پر بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے اور ایک ذاکر ہونے کی حیثیت سے میں کچھ زیادہ ہی شرم محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ:

"اگر آپ نباتات کھائیں گے تو آپ نباتات جیسا عمل اپنا لیں گے ..... لیکن چونکہ میرے پیشو و مقرر نے اس قسم کی دلیل پیش کی تھی ..... لہذا مجھے اسی قسم کا جواب دینا پڑا ہے کہ:

اگر آپ نباتات کھائیں گے تو آپ نباتات جیسا عمل اپنا لیں گے ..... کمزور اور دبے ہوئے ..... اچھی طرح حرکت نہیں کر سکتے گے۔"

مجھے افسوس ہے ..... میں معدرت چاہوں گا ..... مجھے بہر حال دلائل کا جواب دینا ہے ..... جیسے دلائل مجھے پیش کیے گئے ہیں میں ویسا ہی جواب دے سکتا ہوں۔ میں معدرت خواہ ہوں اگر میری وجہ سے کسی سبزی خور کے جذبات مجنوح ہوئے ہوں ..... یہ سامنی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے ..... یہ محض ایک دلیل ہے

ایک جوابی دلیل.....مزید یہ کہ میرے پیارو مقرر نے کچھ امن پسند لوگوں کے نام گنوائے.....امن سے پیار کرنے والے لوگوں کے نام گنوائے مثلًا مہاتما گاندھی.....میں مہاتما گاندھی کا احترام کرتا ہوں کیونکہ اس نے ہندوستان کے لیے کچھ اچھے کام کیے تھے.....انسانیت کے لیے کچھ اچھے کام کیے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مہاتما گاندھی چونکہ امن پسند تھا یا امن کا پرچار کرتا تھا تو آپ بھی سبزی خوری کر کے امن پسند بن جائیں گے.....یا امن کا پرچار کرنے والے بن جائیں گے.....آج اگر آپ ان نوبل انعام یافتہ افراد کی فہرست پر نظر ڈالیں جن کو نوبل انعام برائے امن عطا کیا گیا ہے.....تقریباً تمام تر افراد.....یا ان میں سے زیادہ تر افراد گوشت خور ہیں.....یا سر عرفات.....گوشت خور.....انور سادات.....گوشت خور.....در ٹریسا.....گوشت خور.....

کیا آپ بتاسکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑھ کر ہلاکتیں سرانجام دینے والی کون سی شخصیت تھی؟  
وہ شخص.....

”ہتلر تھا اذولف ہتلر!.....اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو ہلاک کیا تھا۔“

کیا ہتلر سبزی خور تھا یا گوشت خور تھا؟  
وہ سبزی خور تھا!

بہر حال سبزی خوروں میں بھی جیالے ہیں.....آپ جانتے ہیں.....اگر آپ انٹرنسیٹ سے استفادہ حاصل کریں.....وہ کہتے ہیں.....

”دیکھیں.....ہتلر ایک سبزی خور تھا.....یہ ایک من گھڑت قصہ ہے.....ایک فرضی داستان ہے.....وہ کبھی کبھار گوشت خوری

بھی کرتا تھا۔“

اور دوسری طرف ہی کہتے ہیں کہ:

”آپ جانتے ہیں کہ جب اسے تغیر معدہ کا مرض لاحق ہوتا تھا  
اس وقت وہ محضن سبزی پر مشتمل غذا استعمال کرتا تھا..... اس  
وقت وہ سبزی خوری کرتا تھا۔“

میں سائنسی نقطہ نظر کے حوالے سے آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ:

”میں نہیں سمجھتا کہ ہٹلر کی خوراک..... اس کی وہ غذا جو وہ  
استعمال کرتا تھا 60 لاکھ یہودیوں کو ہلاک کرنے کا باعث بنی تھی  
اور نہ ہی میں اس قضیے میں پڑنا چاہتا ہوں کہ وہ سبزی خور تھا یا  
گوشت خور تھا..... میں یہ سب کچھ جانے میں قطعاً دلچسپی نہیں  
رکھتا کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے یہ جانتا ہوں کہ  
یہ چیز کوئی وزن نہیں رکھتی..... کوئی وقعت نہیں رکھتی..... دیگر کچھ  
عوامل ایسے تھے جنہوں نے اسے یہ ڈرامائی اقدام اٹھانے پر  
قابل کیا تھا جو کہ بالکل غیر انسانی اقدام تھا..... اس کی غذا.....  
اس کی خوراک کا اس میں کوئی عمل دخل نہ تھا۔“

کئی ایک تحقیقات سرانجام دی گئی ہیں..... امریکہ میں ایک مطالعہ کی گئی  
ہے..... یہ مطالعہ طلباء کے ایک گروپ پر کی گئی تھی..... جو خالص سبزی خور تھا اور دوسری  
گروپ خالص گوشت خور تھا..... اس کے بعد انہوں نے تجزیہ سرانجام دیا کہ:  
”لڑکوں کا وہ گروپ جو گوشت خوروں پر مشتمل تھا وہ کم تند خو تھا  
اور زیادہ ملن سار تھا۔“

لیکن یہ ایک مطالعہ ہے..... یہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے..... میں اس

مطالعہ کو کبھی ایک دلیل کے طور پر استعمال نہیں کروں گا۔ میں اس مطالعہ کو بنیاد بناتے ہوئے کبھی یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ:

”گوشت خوری آپ کو امن پسند بنا دیتی ہے۔“

نہیں..... میں ایک ڈاکٹر ہوں..... اور ڈاکٹر سے بڑھ کر ایک وکیل بھی ہوں..... جب اور جہاں ایک وکیل کی ضرورت درپیش ہو..... میں ایک اچھا وکیل بھی ثابت ہوتا ہوں..... کیونکہ میں مبانی میں مصروف ہوں..... ”مطالعات“ تو بہت ہوئی ہیں لیکن یہ ”مطالعات“ سامنی حلقہ نہیں ہیں۔

جناب رائی زاویری نے جو بیانات دیے ہیں..... جو دلائل پیش کیے ہیں..... ان کی اکثریت سامنی حلقہ ہونے کی بجائے مختلف مطالعات کے نتائج تھے..... طب کی ایک بھی مستند کتاب الی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ:

”بزری خور عموی طور پر منوع قرار دے دی جائے۔“

کوئی ایک بھی طب کی کتاب یہ نہیں کہتی..... یہ تمام تر مطالعات ہیں..... مثلاً فلاں شخص نے امریکہ میں سروے کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ:

”بزری خوری انسان کو دانشور بنادیتی ہے۔“

اور انہوں نے عظیم شخصیات کی فہرست پیش کر دی..... آئن شائن۔ نیوٹن

وغیرہ وغیرہ۔

اگر ہم ان نوبل انعام یافتہ حضرات کی فہرست کا تجزیہ کریں جنہوں نے اب تک یہ انعام حاصل کیا ہے.....

”ان کی اکثریت گوشت خوروں کی تھی..... اکثریت!“

اور آج جانوروں کے افعال کا مطالعہ سرانجام دینے والے سائنس دان.....

وہ یہ کہتے ہیں کہ:

”گوشت خور درندے سبزی خور جانوروں کی نسبت زیادہ ذہین  
ہوتے ہیں..... اپنا شکار حاصل کرنے کے حوالے سے ..... اگر وہ  
ذہین نہ ہوں تو اپنے شکار کو کیسے قابو کر سکتے ہیں۔“

بہر کیف کچھ بھی ہو لیکن میں اس امر کو ایک دلیل کے طور پر کبھی استعمال  
نہیں کروں گا کہ:

”چونکہ گوشت خور درندے زیادہ ذہین ثابت ہوئے ہیں لہذا  
گوشت ذہین بنادیتا ہے۔“

نہیں ..... میں ایسا دعویٰ ہرگز نہیں کروں گا..... کیونکہ یہ چیزیں حقیقت  
میں انسانوں پر اثر انداز نہیں ہوتیں..... خوراک انسان پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن  
یہ ایک دلیل ہے ..... خوراک انسان پر اثر انداز نہیں ہوتی ..... یہ بھی ایک دلیل  
ہے ..... یہ دلائل ثابت شدہ نہیں ہیں ..... اور دیگر دلائل جو میرے پیش رو مقرر نے  
پیش کیے ..... وہ بھی کسی وزن کے حامل نہیں ہیں ..... کچھ لوگ ایسے ہیں جو مثالیں  
پیش کرتے ہیں کہ:

”گوشت خوری آپ کو مضبوط بناتی ہے۔“

یہ بھی ایک قصہ ہے ..... ایک داستان ہے۔

لیکن یہ ایک سائنسی حقیقت ہے جو طب کی ہر ایک کتاب میں درج  
ہے ..... طب کی مستند کتب میں درج ہے کہ:

”گوشت پر مشتمل غذا میں آپ کی صحت کے لیے کارآمد  
ہیں ..... فائدہ مند ہیں۔“

ان میں بیماریوں کا بھی اندریشہ ہے لیکن آپ ان بیماریوں سے بچاؤ کر سکتے  
ہیں ..... ان میں پروٹین ہے جس کے بارے میں بعد میں بیان کیا جائے گا اور اس

دلیل کے جواب میں جو میرے پیشو و مقرر نے پیش کی کہ:  
 ”یادو ناتھ سنگھ نائک..... کیا کسی نے اس کے بارے میں سنا  
 ہے..... یادو ناتھ سنگھ نائک.....“

کتاب بنام.....

”بزری خوری یا گوشت خوری..... انتخاب آپ کا۔“  
 اس کتاب کا مصنف گوپی ناتھ ہے..... اس کتاب میں درج ہے کہ:  
 یادو ناتھ نائک بزری خور تھا اور فوج میں شامل تھا۔ ریسلنگ کے  
 میدان میں اس نے دو گوشت خروں کو شکست دی تھی..... لہذا  
 بزری خوری آپ کو مضبوط تر بناتی ہے۔“  
 اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔  
 یہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ:

”عالمی ریسلنگ میں اعزاز پانے والے..... اعزاز پانے  
 والے..... جی ہاں..... بزری خور ریسلر بھی موجود ہیں..... لیکن  
 اگر آپ پوری دنیا کا موازنہ کریں..... تقریباً تمام تر اعزاز یافتہ  
 ریسلر گوشت خور ہیں۔“

بادشاہی بلڈنگ کے میدان میں جو شخص سب سے زیادہ جانا پہچانا جاتا ہے.....  
 ”وہ شخص کون ہے؟“  
 اس شخص کا نام.....

”آر علڈ شوارز نیگر ہے..... اس نے 13 عالمی اعزاز حاصل  
 کیے..... 7 اعزاز بطور مسٹر اول پیا..... پانچ اعزاز بطور مسٹر یونی  
 ورس..... اور ایک اعزاز بطور مسٹر ورلڈ۔“

وہ کیا تھا؟

”سپزی خور یا گوشت خور؟“

وہ گوشت خور تھا۔

باکسر محمد علی..... گوشت خور تھا۔

ماں کے نائے سن..... گوشت خور تھا۔

بے شک گوشت خوری قوت میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے..... یہ ایک سامنی حقیقت ہے..... یہی وجہ ہے..... اگر آپ تجزیہ کریں..... آپ دیکھیں گے کہ:

”جب کوئی شخص کسی بیماری سے رواح صحت ہو رہا ہو تو اس کے لیے ترجیحی طور پر گوشت پر مشتمل خوراک تجویز کی جاتی ہے۔“

یہ ضروری نہیں کہ ایسی صورت میں لازماً گوشت پر مشتمل غذا تجویز کی جانی چاہیے..... لیکن ایسی غذا کو ترجیح دی جاتی ہے..... انڈے وغیرہ کا استعمال..... میں اس موضوع پر بعد میں بات کروں گا۔

اور اس کے بعد انہوں نے ایک ریسلر کی مثال پیش کی..... پروفیسر رام مرتحی..... کبھی اس کا نام نہیں سنا اور جناب مقرر صاحب فرماتے ہیں کہ:

”وہ دنیا کا معروف ترین ریسلر ہے۔“

اس کا نام کس نے سنا ہے؟

کیا کسی نے اس کا نام سنا ہے؟

اور جناب مقرر کہتے ہیں کہ:

”وہ دنیا کا مشہور ترین ریسلر ہے۔“

پروفیسر رام مرتحی؟

کسی نے اس کا نام نہیں سنا..... دنیا کا مشہور ترین..... جناب مقرر نے اس

کا نام کہاں سے لیا ہے؟..... دنیا کا مشہور ترین..... اس کے بعد انہوں نے پرمیت جیت سنگھ کی مثال پیش کی جو لندن میں مقیم ہے..... خالص سبزی خور ہے..... لہذا سبزی خوری آپ کو احیلیت بنا دیتی ہے۔

اگر یہ دلائل ہیں... مجھے حقیقت میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ احیلیت کے میدان میں کئی ایک اعزاز پانے والے موجود ہیں..... ان کے بارے میں کتاب موجود ہے..... تمام اس میں درج ہیں..... باڈی بلڈر..... احیلیت..... ان کی غذا کا بھی ذکر موجود ہے..... میں وہ کتاب اپنے ہمراہ لایا ہوں..... ان 80 تا 90 فیصد سے زائد لوگ گوشت خور ثابت ہوں گے۔

لیکن یہ میری حماقت اور بے وقوفی ہو گی اگر میں یہ کہوں کہ:  
”انہوں نے غذا کی بدولت یہ ریکارڈ قائم کیے۔“

مقرر صاحب نے مزید دلائل یہ پیش کیے کہ:  
”سو گھنٹے کی حس..... اور دیکھنے کی حس..... گوشت خور جانوروں میں مضبوط تر پائی جاتی ہے..... ان کی رات کو دیکھنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔“

جیسا کہ مسٹر راشی بھائی زاویری نے کہا ہے کہ:  
”رات کو دیکھنے کی قوت اور سو گھنٹے کی حس گوشت خور جانوروں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور نباتات خور جانوروں میں کم پائی جاتی ہے..... چونکہ انسانوں میں بھی یہ دونوں چیزیں کم پائی جاتی ہیں..... لہذا ہمیں بھی سبزی خور بننا چاہیے۔“

نباتات خور گروپ کے جانوروں سے تعلق رکھنے والی شہد کی کمی..... اس کی سو گھنٹے کی حس مضبوط تر ہوتی ہے اور ان کی رات کے وقت دیکھنے کی قوت بھی بہت

بہتر ہوتی ہے۔

دیکھیں یہ دلائل جو کہ سائنسی دلائل نہیں ہیں..... یہ کسی بھی مباحثے میں لوگوں کو منطقی طور پر قائل کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں..... یہی وجہ ہے کہ میں یہاں موجود ہوں۔

اس کے بعد جناب مقرر صاحب نے مثال پیش کی کہ:

”آپ جانتے ہیں کہ گوشت خور درندوں کی آواز خوفناک ہوتی“  
ہے جبکہ نباتات خور جانوروں کی آواز خوفناک نہیں ہوتی.....“

میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ:  
”کس جانور کی آواز سب سے بڑی اور خوفناک تصور کی جاتی ہے؟“

آپ جانتے ہیں ہوں گے:  
”گلدھا۔“

اب آپ یہ بتائیں کہ:

”گلدھا نباتات خور جانور ہے یا گوشت خور جانور ہے؟“

بہر کیف میں کسی بھی طور پر ثابت نہیں کر رہا کہ:

”سبزی خوری خوفناک آواز کی باعث ثابت ہوتی ہے جبکہ  
گوشت خوری دلکش آواز کی باعث ثابت ہوتی ہے۔“

اگر آپ گلوکاروں کی فہرست پر ایک نظر دوڑائیں تو ان میں بہت سے گلوکار سبزی خور بھی ہیں اور گوشت خور بھی ہیں۔ لہذا ان گلوکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے جو سبزی خور ہیں یہ کہا جائے کہ:

”چونکہ یہ گلوکار سبزی خور ہے لہذا سبزی خوری آواز کو دلکش بناتی ہے۔“

یہ بجانہ ہو گا..... یہ تمام تر غیر منطقی دلائل ہیں۔ حقیقت میں مجھے ان تمام باتوں کا جواب پیش کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اور مقرر صاحب نے کچھ معاشری نکات پر بھی روشنی ڈالی کہ：“معاشری وجوہات کی بنا پر ہمیں سبزی خوری کرنی چاہیے۔”

مسٹر زاویری کی نگاہ میں سبزی خوری میں کفایت شعاراتی پہنچا ہے..... یہ سستی پڑتی ہے اور انہوں نے کئی ایک اعداد و شمار کے حوالے بھی دیے..... اتنی کلوریز..... اتنے یہ..... اور اتنے وہ..... اتنے ٹن پروٹین..... انہوں نے اس شماریات کو کہاں سے حاصل کیا؟ خدا بہتر جانتا ہے..... اور انہوں نے پروٹین کا حوالہ بھی دیا..... یہ بھی اس کتاب میں درج ہے کہ ایک کلوگرام حیواناتی پروٹین حاصل کرنے کی غرض سے ہمیں جانوروں کی خوراک کے لیے کتنا چارہ اگانا پڑتا ہے اور اس زمین پر چارے کی بجائے سبزیاں کاشت کی جاسکتی ہیں..... آپ کسی جانور سے ایک کلوگرام پروٹین حاصل کرنے کی خاطر سات کلوگرام سبزیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں..... لہذا سبزیاں سستی پڑتی ہیں۔

وہ پروٹین کے یہ کلوگرام کیسے حاصل کرتے ہیں..... میں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے یہ محسوس نہیں کر سکا کہ یہ غذا کے کلوگرام ہیں یا پروٹین کے کلوگرام ہیں؟ اور اگر بالفرض حال میں اس کے ساتھ متفق بھی ہو جاؤں کہ دو جمیع دو پانچ ہوتے ہیں..... میں مان لیتا ہوں..... اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ دو روپے لیں اور مجھے پانچ دے دیں..... مجھ سے 2000 روپے لیں اور پانچ ہزار دے دیں۔ اس طرح اگر میں یہ تسلیم کروں کہ یہ درست ہے..... ان کی تمام تر شماریات..... تب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ”سبزی خوری“..... ان کو گوشت خوروں کا محفکور ہونا چاہیے..... آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر ہم جانوروں کو اپنے خوراک

بنانے کے لیے ذبح نہ کریں..... اور یہ مزید پانچ یا دس برس تک زندہ رہیں اور اس عرصے کے دوران وہ اتنی بنا تات خوری کر لیں گے جو آپ کی چند برسوں کی خوراک کی ضروریات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ لہذا آپ کو ہمارا مشکور ہونا چاہیے کہ ہم جانوروں کو تمہاری بزریاں کھانے سے بچا رہے ہیں اور انھیں ذبح کر کے اپنی خوراک بنارہے ہیں۔

مزید انہوں نے نہ جانے کس روکارڈ سے یہ اعداد و شمار پیش کیے ہیں..... میں نہیں جانتا تھا کہ ان اعداد و شمار کے ذرائع کیا ہیں؟..... ماغذہ کیا ہیں؟ بہر کیف انہوں نے کہا ہے کہ:

”آپ جوز میں مویشیوں کا چارہ کاشت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ زمین رقبے میں اس زمین سے 14 گنا بڑھ کر ہے جس پر بزریاں کاشت کی جاتی ہیں۔“

اس قسم کی مثال پیش کی گئی ہے کہ:

”ایک ٹن گوشت کے حصول کی خاطر جتنی زمین مویشی کے چارے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس زمین کی بدولت پانچ خاندان ان اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔“

ایک ٹن گوشت 10 یا 20 ٹن بزری کے برابر ہے اور وہ زمین جو ایک مویشی کی خوراک کے لیے چارہ کاشت کرنے کے کام میں لاٹی جاتی ہے اس زمین سے پانچ خاندانوں کی غذائی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔

یہ نظریاتی بزری خور..... وہ یہ محسوس کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ جانوروں کا چارہ اس زمین پر کاشت کیا جاتا ہے جو انسانی استعمال میں آنے والی فصلوں کی کاشت کے لیے ناکارہ ہوتی ہے۔

مویشی وہ خوراک ..... وہ نباتات وغیرہ کھاتے ہیں جو انسانی خوراک کے کام میں نہیں لائی جاسکتی ..... وہ ان نباتات کو اپنی غذا نہیں باتے جو انسانی غذا بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ اسی غذا کو بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ ایسے کھیتوں میں داخل ہوتے ہیں تو کسان فوراً انھیں کھیتوں سے نکال باہر کرتا ہے ..... نقصان کیوں برداشت کیا جائے؟ ہاں البتہ آپ کے پاس فاضل فصلیں موجود ہوں ..... کئی ایک حکومتیں اسی بھی ہیں جو مویشیوں کو اسی فصلیں کھلاتی ہیں۔ اور خانہ بدوسوں کی کچھ آبادی اسی بھی ہے جن کی گزر بسر ریوڑ پالنے کی مرہون منت ہے ..... وہ اسکی زمین پر مویشی چراتے ہیں جو فضلوں کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ اور اس طرح وہ اپنے روزگار کا سلسلہ برقرار رکھتے ہیں ..... جانور بھی اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور انسان بھی اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں اور آج کل اقوام متحده کی ایک رپورٹ کے مطابق .....

”دنیا کی تقریباً 23 فیصد زمین چاگا ہوں کے طور پر استعمال ہو رہی ہے ..... 23 فیصد جنگلات کے لیے استعمال ہو رہی ہے ..... ایک فیصد سے کم زمین کاشت کاری کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور بقایا 45 فیصد زمین بھی کاشتکاری کے لیے استعمال کی جاسکتی ہے۔“

آپ یہ بقایا زمین کیوں زیر کاشت نہیں لاتے؟

آپ کیوں ہاتھ دھو کر جانوروں کی خوراک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ غریب مخلوق ..... انھیں جینے دیں ..... انھیں بھی کھانے دیں ..... آپ انھیں کیوں کھانے سے روک رہے ہیں؟ اگر گوشت خور جانوروں کو ذبح کرنے سے دست بردار ہو جائیں تو آپ

جانتے ہیں کہ کیا وقوع پذیر ہو گا۔

”جانوروں کی آبادی حد سے بڑھ جائے گی۔“

میں اس حقیقت سے بھی آگاہ ہوں کہ:

”لوگ بھی خوراک کے حصول کے لیے مویشی پالتے ہیں لہذا وہ

بھی مویشیوں کی افزائش کا سبب بنتے ہیں۔“

لیکن فرض کریں کہ:

”آج سے تمام گوشت خور جانور ذبح کرنا بند کر دیں خوراک

کے حصول کی خاطر ان کی ہلاکت بند کر دیں..... خوراک کے

حصول کے لیے مویشی پالنا بھی بند کر دیں..... اس کے باوجود

بھی مویشیوں کی آبادی میں اضافہ ہو گا..... آپ جانتے ہیں

کہ کیوں؟

وہ اس لیے کہ:

”ہم انسان..... ہماری آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے..... اگرچہ

ہم فیملی پلانگ پر بھی عمل درآمد کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود

ہر سال ہماری آبادی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جانوروں

میں بر تھ کنٹرول رانچ نہیں ہے اور ان کے حمل کا دورانیہ بھی

انسانی حمل کے دورانیہ سے کم ہے..... لہذا ان کی آبادی میں

جلد اضافہ ہو گا..... لہذا اگر ہم مویشیوں کو ہلاک کرنے سے

دست بردار ہو جائیں..... چند عشروں کے اندر اندر یہ ہمارے لیے

ایک مسئلہ بن جائیں گے اور انسانی آبادی کی کثرت کی بجائے

جانوروں کی آبادی کی کثرت ایک بڑا مسئلہ بن جائے گی۔“

آپ اس مسئلے سے کیسے پیش گے؟  
کئی ایک اقسام کی غذائیت موجود ہے..... مقرر صاحب نے تو محض  
”پروٹین“ کی بات کی ہے..... اگر وقت نے اجازت دی تو میں ضرور جواب پیش  
کروں گا۔

فی الحال میں ڈاکٹر جارج آر۔ کار کے ایک بیان کا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا  
جو کہ مقرر صاحب کے صحت کے ضمن میں دیے گئے تمام تر دلائل کا ایک بہترین اور  
معقول جواب ہے۔

ڈاکٹر جارج آر۔ کار ماہر غذا ہیں اور اسی میدان کے پروفیسر ہیں..... وہ  
یونیورسٹی آف نیکاس میں پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ:  
”میں کیوں ان کا عہدہ بھی تحریر کر رہا ہوں؟“  
میں اس لیے ان کا عہدہ تحریر کر رہا ہوں کہ:

”آپ یہ جان سکیں کہ یہ لوگ صحت کے ساتھ ہونے والے فراڈ  
پرمضبوط گرفت ڈالنے میں خصوصی مہارت کے حامل ہیں..... یہ  
لوگ صحت کے ساتھ ہونے والے فراڈ کو بے نقاپ کرنے میں  
اپنی مثال آپ ہیں۔“

پروفیسر موصوف کہتے ہیں کہ:

”خوراک اور بیماریوں سے متعلق کتب کے تمام تر مصنفوں .....  
یہ لوگ مفترضوں کا سہارا لیتے ہیں..... ایسے مفروضے جو غیر  
مصدقہ ہوتے ہیں..... ناپسندیدہ ہوتے ہیں..... غیر دریافت  
شده ہوتے ہیں..... یا مسٹرد کیے جا چکے ہوتے ہیں۔“

میں ایک بار پھر دہرا دیں گا کہ پروفیسر (ڈاکٹر) جارج آر۔ کار کہتے ہیں کہ:  
”خوراک اور بیماریوں سے متعلق کتب کے تمام مصنفوں ..... یہ

لوگ مفروضوں کا سہارا لیتے ہیں..... ایسے مفروضے جو غیر مصدق ہوتے ہیں..... ناپسندیدہ ہوتے ہیں..... غیر دریافت شدہ ہوتے ہیں..... یا مسترد کیے جا چکے ہوتے ہیں۔“

مقررہ وقت اختتام پذیر ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے..... میں ایک اور بیان کی طرف آپ کی توجہ دلانا پسند کروں گا..... یہ بیان ”امریکی کنسل برائے سائنس اور صحت“ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے..... یہ ایک بیان ہے..... دیکھیں وہ ماہرین ہیں..... تحقیقات کے یہ حوالہ جات سائنسی حقائق نہیں ہیں..... یہ تمام تر حوالہ جات..... کہ یہ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں..... کچھ سائنسی حقائق ہیں..... لیکن ان سے بچاؤ ممکن ہے..... لیکن دوسری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، کہ اس زمین کے بارے میں ہیں یا اس زمین کے بارے میں ہیں..... یہ محض اعداد و شمار ہیں..... محض شماریات ہیں..... ان کو انفرادی تحقیقین نے سرانجام دیا ہے۔

حتیٰ کہ جب آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں..... آپ تحقیق کر سکتے ہیں جو کہ زیر غور لاٹی جاسکتی ہے..... لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا..... کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ”امریکی کنسل برائے سائنس اور صحت“ کہتی ہے کہ:

”کسی بھی شخص کو گوشت خوری سے مکمل دست برداری اختیار نہیں کرنی چاہیے اور سبزی خوری بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک صحت مند جسم کا حامل بن سکے..... اس کی صحت برقرار رہ سکے۔“

اور ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ:

”سبزی خوری یا گوشت خوری..... دونوں میں سے کون سی صحت کے لیے بہتر ہے؟“

بلکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ:

”گوشت خوری انسان کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟“

اور میں اپنے نکات مختصر طور پر بیان کروں گا تاکہ مسٹر زاویری کو جواب دینے میں آسانی رہے:

(i) کوئی بھی بڑا نہ ہب ایسا نہیں ہے جو قطعی طور پر گوشت خوری پر پابندی عائد کرتا ہو۔

(ii) جغرافیائی لحاظ سے..... مثلاً دنیا کے جس خطے پر ایکیمو آباد ہیں..... آپ سارا سال کس طرح اس خطے کو سبزیاں مہیا کریں گے اور اگر بالفرض محال آپ ایسا کر بھی لیں یہ تو ایک انتہائی مہنگا ترین اقدام ثابت ہو گا۔

(iii) اگر تمام تر جاندار مخلوق کی زندگیاں مقدس اور اہم ہیں تب آپ نباتات کو کیوں ہلاک کرتے ہیں..... کیونکہ وہ بھی زندگی کے حامل ہیں..... ان میں بھی زندگی کی رمق موجود ہے۔

(iv) یہاں تک کہ نباتات بھی درد کا احساس رکھتے ہیں۔

(v) اگر میں یہ تسلیم کر لوں کہ ان کے دو حواس کم ہوتے ہیں..... دو حواس کم رکھنے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کی عام اجازت ہے یا ایسا کرنا کم تر درجے کا حامل جرم ہے..... یہ ایک غیر منطقی جواز ہو گا۔

(vi) یہ ایک ترجیحی عمل ہو گا کہ ایک جانور کو ذبح کیا جائے..... ایک جان لی جائے بجائے اس کے کہ 100 لوگوں کی خوراک کے لیے 100 پودوں (نباتات) کی جان لی جائے۔

(vii) ہر ایک دلیل رد کی جاسکتی ہے..... جگر اور گردے..... اتچ سی ایل..... یہی کچھ لعاب دہن کے سلسلے میں ہے..... یہی کچھ خون کے پی اتچ کے بارے میں ہے..... یہی کچھ لپوپ و میٹن کے بارے میں ہے۔

(viii) انسانی دانت سبزی خور طرز کے بھی حامل ہیں اور گوشت خور طرز کے بھی حامل ہیں..... یہ سبزی خوری اور گوشت خوری دونوں سرانجام دے سکتے ہیں۔

- (ix) انسانی نظام ہضم بزریاں اور گوشت دونوں کو ہضم کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے..... اور میں نے اسے سائنسی لحاظ سے ثابت بھی کیا ہے۔
- (x) ابتدائی دور کا انسان گوشت خور تھا..... لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان کے لیے ناجائز ہے..... یا منوع ہے۔
- (xi) آپ جو غذا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن یہ کہنا کہ گوشت خوری آپ کو تشدد پسند بنا دیتی ہے..... اس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔
- (xii) یہ دلائل پیش کرنا کہ:  
• بزری خوری آپ کو مضبوط اور تو اتنا بناتی ہے۔  
• آپ کو امن پسند بناتی ہے..... آپ کو داش ور بناتی ہے..... آپ کو احیلیٹ بناتی ہے..... یہ سب کچھ من گھڑت قھے ہیں۔
- (xiii) رات کو دیکھنے کی قوت اور سونگھنے کی حس..... بنا تات خور جانوروں میں زیادہ ہے جبکہ گوشت خور درندوں میں کم ہے..... بنا تات خور جانوروں کی آواز سریلی ہے اور گوشت خور درندوں کی آواز خوفناک ہے..... یہ سب کچھ غیر منطقی ہے۔
- (xiv) بزری خوری سستی پڑتی ہے..... میں نے اس دلیل کو مسترد کر دیا ہے..... یہ کئی ایک مالک میں سستی نہیں پڑتی..... کئی مالک میں مثلاً ہندوستان..... اس میں یہ سستی پڑ سکتی ہے..... لیکن اگر آپ دیار غیر پر نظر دوڑائیں..... اہل مغرب وغیرہ..... وہاں پر بزری پر مشتمل غذا میں مہینگی ہیں..... اور تازہ بزری نایاب ہے۔
- (xv) جانوروں کی چڑا گاہوں کے لیے زمین مختص کرنے سے کاشت کاری کے لیے درکار زمین متاثر ہوگی..... یہ بھی غلط ہے۔

(xvi) اگر گوشت خور جانور ذبح کرنا بند کر دیں تو آپ جانتے ہیں کہ مویشیوں کی آبادی حد سے بڑھ جائے گی اور مسائل کفر کرنے کا باعث ثابت ہوگی۔

(xvii) ڈاکٹر کار کے مطابق کہ:

”ماہرین غذا کی تحریر کردہ کتب قابلِ اعتماد نہیں ہوتیں۔“

مقرر صاحب کے تمام تر اعداد و شمار اور حوالہ جات انھیں کتب سے لیے گئے ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ:

”گوشت خوری پر عمومی طور پر پابندی لگا دینی چاہیے۔“

(xix) اس روئے زمین پر ایک بھی حکومت ایسی نہیں ہے جس نے ایک عمومی قانون کے تحت گوشت پر مشتمل تمام تر غذاؤں پر پابندی عائد کی ہو۔

(xx) حتیٰ کہ ”امریکی کنسل برائے سائنس و صحت“ نے یہ کہا ہے کہ:

”ایک صحت بخش غذا کے لیے..... خالص بہتری ہرگز نہیں  
چلے گی۔“

میرے خیال میں یہ ثبوت و افری ثبوت ہیں..... جو منطقی اور سائنسی حوالوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ:

”گوشت خوری انسان کے لیے جائز ہے۔“

یا

”انسان کو گوشت خوری کی اجازت ہے۔“

اگر مسٹر زاویری اب بھی مجھ سے متفق نہ ہوں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سائنسی نقطہ نظر سے..... سائنسی حوالہ جات کے تحت اپنے دعویٰ کو ثابت کریں نہ کہ مطالعات کا موازنہ سرانجام دیتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کریں۔

لیکن اگر مسٹر راشی بھائی زاویری ان میں نکات کا جواب دینے میں ناکام بھی رہے تو ایسی صورت میں بھی میں انھیں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ:

”وہ بھی گوشت خور بن جائیں۔“

کیونکہ.....

”میں ایک متعصب گوشت خور نہیں ہوں۔“

ہاں اگر.....

”وہ سبزی خوری پر قائم رہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔.....

کیونکہ یہ ایک ذاتی معاملہ ہے..... ذاتی انتخاب ہے..... کچھ

لوگ کسی نہ کسی وجہ سے سبزی خوری پسند کرتے ہیں۔“

اور محض ایک بات میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ:

”سبزی خور..... نظریاتی سبزی خور..... جو یہ پر اپیلگنڈہ کرتے ہیں

کہ سبزی خوری قابل قدر ہے اور زیادہ وقعت کی حامل ہے.....

وغیرہ۔ وغیرہ..... ان کو یہ چیزیں بند کر دینی چاہیں..... اور ان

اقسام کی کتب کی تقسیم بھی بند کر دینی چاہیے جو لوگوں کو گمراہ

کرتی ہیں۔“

میں قرآن پاک کی سورۃ نحل..... سورۃ نمبر 16..... آیت نمبر 25 کا حوالہ

دیتے ہوئے اپنے خطاب کو اختتام تک پہنچانا پسند کروں گا..... جس میں فرمایا گیا

ہے کہ:

”اپنے رب کی طرف بلا و کلی تدبیر اور اچھی نصیحت نے

اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔“

(تالیاں)

(ڈاکٹر محمد)

میں اب مسٹر رائٹی بھائی زاویری سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈاکٹر ڈاک  
نائک کو اپنا جواب پیش کریں۔

خواتین و حضرات مسٹر رائٹی بھائی زاویری

(تالیاں)

(مسٹر زاویری)

سب سے پہلے میں ڈاکٹر ڈاکٹر نائک کا دلی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے  
مجھے یہ حق انتخاب بخشنا کہ:

”کیا میں بدستور بزری خور رہنا پسند کروں گا یا گوشت خوری پسند  
کروں گا۔“

بہت بہت شکریہ۔

میں جناب کو آرڈی نیٹ سے درخواست کروں گا کہ:

”کیا وہ میرا جواب یا میرا تبصرہ پسند فرمائیں گے۔“

(ڈاکٹر محمد)

اب یہ بہتر ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم.....

(مسٹر زاویری)

اگر آپ پسند کریں تو ہم سوال جواب کے سلسلہ کا آغاز کر سکتے ہیں۔

(ڈاکٹر محمد)

سوال و جواب ..... یہ سلسلہ ہم تیرے اجلاس میں شروع کریں گے.....

ہماری یہ تقریب تین حصوں پر مشتمل ہے ..... جی ہاں مسٹر زاویری آپ اپنی گفتگو جاری  
رکھ سکتے ہیں۔

(مسٹر زاویری)

بہر کیف ہم کامل طور پر کوآرڈی نیٹر (ڈاکٹر محمد) کے زیر کمان ہیں..... لہذا میں ان کی ہدایات پر عمل کروں گا۔  
(ڈاکٹر محمد)

نہیں..... جیسا فیصلہ کیا جا چکا ہے..... آپ جانتے ہیں..... ہم وہی طریقہ کار اپنا میں گے۔  
(ڈاکٹر محمد)

میں ڈاکٹر ذاکر کو بھی یہ اجازت فراہم نہیں کروں گا کہ وہ طریقہ کار میں تبدیلی لا میں ..... میں اعتراض کروں گا۔  
(مسٹر زاویری)

اب پہلی بات جو میں کروں گا وہ یہ کہ..... سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کوئی شخص منطقی ہے یا غیر منطقی ہے اور یہ حق انتخاب بھی نہیں ہے جس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے..... جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے دوران پہلے بھی عرض کیا ہے ..... ہر ایک چیز متعلقہ ہے..... اور آپ کو اس موضوع کو اسی پس منظر میں سمجھنا ہوگا..... ایک چیز جس پر میں ڈاکٹر ذاکر سے شدید اختلاف کروں گا:

”کوئی مذہب بھی گوشت خوری کی ممانعت نہیں کرتا۔“

میں ایک ماہر ہوں..... میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں..... میں نے جینیا لو جی میں ایم۔ اے کیا ہوا ہے..... میں مذہبی نقطہ نظر کے تحت کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں نے گوشت خوری سے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے..... میں پہلے ہی آپ کو کچھ حوالے پیش کر چکا ہوں..... آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذین آرنش کی بڑی دلیل اس حقیقت پر بنیاد کرتی ہے کہ گوشت پر مبنی غذا میں زیادہ

پروٹین، کولیسٹرول اور چکنائی کی حامل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ صحت مند اور پر سکون زندگی بس رکنے کی غرض سے..... آپ کو گوشت خوری کرنی چاہیے..... گوشت پر مبنی غذا میں استعمال کرنی چاہئیں..... انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نباتات بھی جاندار ہوتے ہیں..... یہ نہ صرف ڈاکٹر جلدیش چندرابوس بلکہ ہمارے لارڈ مہاویر..... انہوں نے 2500 برس پیشتر فرمایا تھا کہ نہ صرف نباتات بلکہ ہوا، پانی، آگ..... زمینی دھاتیں..... یہ سب زندگی کی رقم رکھتی ہیں..... جاندار ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس زندگی کو ہلاک کریں اور اپنی زندگی بحال رکھیں..... لہذا انہوں نے فرمایا کہ وہ ترک دنیا نہیں کر سکتے اور ”جیں منی“ بن جاتے ہیں..... آپ جانتے ہیں ”جیں منی“ کیا ہوتا ہے..... وہ نباتات کو بھی ہلاک نہیں کرتے اور دیگر جاندار اشیاء بھی اپنی خوراک کے طور پر استعمال نہیں کرتے..... ہم اس اختلافی قصے میں نہیں پڑنا چاہتے یہ ایک علیحدہ داستان ہے..... لیکن مہاویر کی تعلیمات بالکل واضح ہیں..... کہ آپ کو کسی بھی جاندار چیز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے خواہ وہ جانور ہوں یا پودے..... لیکن وہ لوگ جو ترک دنیا نہیں کر سکتے..... ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم آپ کچھ جانداروں کی ہلاکتوں سے توقیع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ..... جب آپ نباتات (بزری خوری) سے ہٹ کر خوراک استعمال کرتے ہیں تو یہ مذہبی خلاف ورزی کے مترادف ہے..... یہ ”حسا“ (Hinsa) ہے..... لیکن یہ ضروری ہے..... لہذا میں جس کی ممانعت کر رہا ہوں وہ غیر ضروری ہلاکتیں ہیں۔ دوستو..... یہ ایک نمایاں امتیاز ہے لیکن بہت اہم امتیاز ہے..... اگر نعم البدل کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے جو ہمیں جانداروں کی ہلاکتوں پر مجبور کرے اور اپنی ساتھی مخلوق کو اپنی غذا بنا دالیں..... دوسری چیز جس کے بارے میں کہا گیا وہ نباتات (پودے) ہیں..... اپنی گفتگو میں میں نے

نبا تاتی خوراک کے بارے میں بھی عرض کیا تھا..... پودوں سے آپ پھل حاصل کرتے ہیں..... اگر آپ ان کی شاخوں کی تراش خراش کریں تو وہ آپ کو زیادہ پھل دیں گے..... مزید شاخیں اگیں گی..... دیکھیں کہ ان دلائل کا کوئی اختتام نہیں ہے..... لہذا ہمیں اپنے دلائل کو یہاں تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔

جہاں تک میڈیکل سائنس کا تعلق ہے..... اور انہوں نے طبی نکتہ نگاہ سے بھی درست فرمایا ہے..... انہوں نے کچھ مثالیں بھی پیش کی ہیں..... میں نے بھی اس بارے میں عرض کی ہے۔ اب یہ روشن دماغِ ماعین پر منحصر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ میں نے جو سائنسی حقائق پیش کیے ہیں وہ درست ہیں یا انہوں نے جو سائنسی حقائق پیش کیے ہیں وہ درست ہیں..... میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں تردید کرنا چاہتا ہوں..... نفیا تی پہلو..... جب ہم حیوانی غذا استعمال کرتے ہیں تو ہم میں کچھ حیوانی خصلتیں بھی عود کر آتی ہیں..... اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟..... اپنی تردید میں آپ کہہ سکتے ہیں..... اب ڈاکٹر بھی..... بہت سے ڈاکٹر کچی سبزیاں تجویز کرتے ہیں..... وہ کچی سبزیوں کو ایک صحت بخش غذا تصور کرتے ہیں..... جو سبزیاں کچی استعمال نہ کی جاتی ہوں محض وہی سبزیاں پکا کر استعمال کرنی چاہئیں..... لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے اور ہماری ”انڈین ٹکھیئر مین کانگرس“ میں..... ہم ہمیشہ..... جب کبھی بھی ہمارا اجلاس ہوتا ہے..... ہماری زیادہ تر خوراک کچی خوراک پر مبنی ہوتی ہے..... اس کو پکایا نہیں جاتا..... اور یہ زیادہ صحت بخش ثابت ہوتی ہے..... ہمارے نظریے کے مطابق..... جہاں تک کتب کا تعلق ہے..... میں نے یہ کتب ڈاکٹر ڈاکٹر نائک کے حوالے نہیں کی تھیں بلکہ یہ کتب میرے ایک دوست مسٹر سالیچا نے ڈاکٹر نائک کے حوالے کی تھیں جس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا..... درست ہے..... یہ کوئی اہم معاملہ نہیں ہے..... اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا..... وہ یہ کہ آپ حقیقت کو

تبديل نہیں کر سکتے ..... محض اونچی اونچی واہ۔ واہ کرتے ہوئے آپ حقیقت کو نہیں بدل سکتے ..... درست ہے ..... اگر آپ میرے دلائل سے متاثر ہوئے ہیں تو آپ میری واہ۔ واہ کر سکتے ہیں ..... میری تعریف کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ اگر کچھ دلائل آپ کو خوش کن دکھائی دیں اور آپ با آواز بلند ان کی واہ واہ سرانجام دیں ..... ان کی تعریف کریں تو آپ کا یہ عمل درآمد حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا ..... اور میں نے ایک کتاب کا حوالہ پیش ہے ..... ڈاکٹر دیپک چوپڑا ..... انھوں نے بہت سی کتب تحریر کی ہیں ..... وہ ایک معالج بھی ہیں ..... ڈاکٹر ڈین آرش کی طرح ایک معالج بھی ہیں ..... انھوں نے تحقیقاتی کام بھی سرانجام دیا ہے اور انھوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ وہ غذا جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے نفسیاتی اور جذباتی عوارض گوشت خوری کی بنا پر منظر عام پر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گوشت خوری منوع ہے۔ یہ کہنا بالکل ایک غیر منطقی عمل ہوگا کہ مویشیوں کو اپنی غذا بناتے ہوئے آپ سبزی خوروں کی معاونت سرانجام دے رہے ہیں۔ ہمیں جانوروں کی آبادی کی پرواد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی پرواد کے لیے فطرت بذات خود ہی کافی ہے ..... کیوں؟ ..... کیونکہ ہم بہت سے مویشیوں کو اپنا لقمه بنا لیتے ہیں اور اگر ہم یہ عمل درآمد سرانجام نہ دیں ..... آپ جنگل کی طرف نگاہ ڈال کر دیکھ لیں ..... ہر طرف قدرت کی کاریگری کا فرمایا ہے ..... قدرت خود بخود ہی توازن برقرار رکھے گی ..... کسی کو اس بابت فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگر مویشیوں کو اپنا لقمه بنا چھوڑ دیا تو ان کی آبادی کثرت کے ساتھ بڑھ جائے گی اور مسائل کا باعث ثابت ہوگی ..... لہذا کسی کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس تاریخ کی بابت مسٹر ترویدی نے بھی اشارہ کیا ہے اور ڈاکٹر ڈاکٹر نے بھی اشارہ کیا ہے ..... اب میں اسے جیسے تاریخی نقطہ

نظر کے تحت بیان کروں گا..... کہ ہماری جیسی متن کی مذہبی کتب میں ..... یہ واضح طور پر درج ہے کہ لوگ ..... وہ لوگ جو ماقبل تاریخ کے دور میں آباد تھے ..... وہ ایک درخت کے نیچے رہتے تھے اور ان کو افر مقدار میں درخت دستیاب تھے ..... انھیں کسی کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں جانا پڑتا تھا ..... دوستو بے شک مجھے کافی وقت عطا کیا گیا ہے ..... لیکن میں ..... میں حقیقت میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں آپس میں بحث بازی یا دلائل بازی میں نہیں الجھنا چاہیے ..... میں سامعین سے یہ توقع رکھوں گا کہ وہ سوال جواب کے اجلاس میں شرکت فرمائیں اور اس اجلاس میں زیادہ وقت صرف کریں ..... شکریہ

(تالیاں)

(ڈاکٹر محمد)

مسٹر زاویری آپ کا شکریہ ..... ہمارے پاس مزید پانچ منٹ باقی ہیں ..... انہوں نے پانچ منٹ کا دورانیہ کم استعمال کیا ہے ..... اب میں ڈاکٹر ڈاکٹر ناک سے درخواست کروں گا کہ وہ مسٹر راثی بھائی زاویری کے خطاب کا جواب پیش کریں ..... ان کو حضن 15 منٹ کا دورانیہ دیا جا رہا ہے۔

(ڈاکٹر ڈاکٹر)

الحمد لله والصلوة والسلام على رسوله وعلى آله  
وصحابه واجمعين ..... اما بعد اعوذ بالله من الشيطن  
الرجيم ..... بسم الله الرحمن الرحيم.

قابل قدر سامعین کرام ..... میرے قابل احترام بزرگوار اور میرے عزیز بھائیو اور بہنوں ..... میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اسلامی طریقہ کار کے تحت خوش آمدید کہتا ہوں ..... السلام عليکم ورحمة الله وبركاته ..... آپ سب پر سلامتی ہو اور اللہ

تعالیٰ کی رحمت ہو..... میں سہولت کے ساتھ کوئی چیز نہیں بھولا..... اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے مقررہ وقت سے محض ایک منٹ زائد خطاب کیا تھا..... لہذا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ:

”میں بڑی سہولت کے ساتھ بھول گیا تھا۔“

اگر آپ میرے لیے پانچ گھنٹے مختص کریں..... اگر آپ مجھے سننے کے لیے تیار ہوں ..... یہاں پر ڈلے رہنے کے لیے تیار ہوں ..... کیونکہ یہ آپ حضرات ہی ہیں جو وقت کی پابندی کا باعث بنتے ہیں ..... آپ حضرات کی وجہ سے ہم پر وقت کی پابندی لاگو کی جاتی ہے ..... آپ جانتے ہیں کہ 30 منٹ کا دورانیہ مختصر دورانیہ تھا میں نے 50 منٹ کے دورانیے کے لیے بات کی تھی ..... میں مسلسل دو گھنٹوں تک خطاب کرنے کے لیے بھی تیار ہوں حتیٰ کہ میں تمام دن بولنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں قوت برداشت کا حامل مقرر ہوں ..... الحمد للہ ..... میں گوشت خور ہوں۔

(تالیاں)

مسٹر زاویری نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ:

”کوئی بھی مذہب گوشت خوری سے منع نہیں کرتا۔“

میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا تھا کہ:

”کوئی بھی مذہب۔“

بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ:

”کوئی بھی بڑا مذہب۔“

یہ تمام تر کارروائی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس لیے شک و شبہے والی کوئی بات

نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ:

”کوئی بھی بڑا مذہب۔“

اور جیں مت ایک بڑا مذہب نہیں ہے۔

آپ نے مجھے جو کتابیں فراہم کی تھیں۔ آپ نے مجھے کچھ کتابیں دی تھیں..... جیں ہندوستان کا محض 0.4 فیصد ہیں..... یعنی ایک فیصد سے بھی کم ہیں..... کیا آپ اس تعداد کو ہندوستان میں ایک بڑا مذہب قرار دے سکتے ہیں..... دنیا کو ایک طرف چھوڑ دیں..... دنیا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا..... نظر انداز کر دیں..... میں جواب پیش کر سکتا ہوں لیکن انتظامیہ مجھے اجازت فراہم نہیں کرے گی..... میرا موضوع اسلام تک ہی محدود ہے..... آپ جانتے ہیں کہ میں جیں مت پر بھی بخوبی جواب دے سکتا ہوں..... میں مقابل ادیان کا طالب علم ہوں۔

(ڈاکٹر محمد)

معافی چاہتا ہوں جناب..... جب ایک مقرر اپنے خطاب میں مصروف ہو تب آپ اس کے خطاب میں مداخلت نہیں کر سکتے۔

(ڈاکٹر ڈاکر)

بھائی فرمارہے ہیں کہ:

”میں نے نہیں کہا تھا۔“

آپ ویڈیو کیسٹ بخوبی ملاحظہ فرماسکتے ہیں:

”کوئی بھی بڑا مذہب ایسا نہیں ہے جو کہ عام طور پر گوشت پر منی

تمام تر خوراک پر پابندی عائد کرتا ہو۔“

آپ ویڈیو کیسٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

(ڈاکٹر محمد)

آپ سوال جواب کے اجلاس میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔

(ڈاکٹر ڈاکر)

تاراض نہ ہوں..... غصے میں نہ آئیں..... آپ کی غذا آپ کی مدد کرے گی..... تاراض نہ ہوں..... غصے میں نہ آئیں..... بھائی راشی بھائی زاویری نے کہا کہ:

”میں نے جواب نہیں دیا۔“

خواہ، ہم میں جانوروں والی خصلتیں ہی کیوں عود نہ کر آئیں۔

میں نے اپنے خطاب میں عرض کیا تھا..... میرا خیال کہ آپ نے غور نہیں فرمایا..... میں نے عرض کیا تھا کہ:

”ہم شریف انسان نفس جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں مثلاً بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ کیونکہ یہ اُن پسند ہیں اور پڑا اُن رہنا چاہتے ہیں۔“

اور یہی وجہ ہے کہ جب میں اپنے خطاب کا آغاز کرتا ہوں میں یہی دعا کرتا ہوں کہ:

”آپ سب پر سلامتی ہو۔“

مزید انہوں نے یہ فرمایا کہ:

”میں نے ڈاکٹر ڈین آرنس کا حوالہ پیش نہیں کیا۔“

میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں..... اگر ان کی کتاب کو کسی معتبر میڈیا کا لمحہ سند حاصل ہے..... ایک معتبر کتاب ہے..... محض ایک خانہ پری نہیں ہے..... میں پہلے ہی جواب پیش کر چکا ہوں..... ڈاکٹر ولیم ٹی۔ جاروس کے حوالے سے کہ:

”سائنس دان اور طبی ماہرین سبزی خوروں کے نظریات سے متفق نہیں ہیں۔“

یہ ایک طبی کتاب نہیں ہے..... انہوں نے غذاؤں کے بارے میں کتاب تحریر کی ہوگی۔ میں بچتی اور کھری بات کرنے کا عادی ہوں..... میں الفاظ کا ہیر پھیر نہیں جانتا۔ میں صاف، واضح اور دو ٹوک بات کرتا ہوں..... اور ڈین آرنس..... جو

کچھ بھی اس کا نام ہو..... اگرچہ وہ بہت مشہور اور نامور ہی کیوں نہ ہو لیکن میں اسے  
خوبیں جانتا..... میں اس کا نام پہلی بار سن رہا ہوں ..... میں نے ابھی اس سے یہ  
دریافت کرنا ہے کہ وہ ثابت کرے اور پڑھتاں کرے کہ کیا اس کتاب کو ایک نیکست  
بک تسلیم کیا گیا ہے ..... نہ کہ ایک طبعی کتاب ..... کسی بھی کالج کی نیکست بک بنایا گیا  
ہے یا نہیں ..... اس طرح کتاب کی معترضیت ثابت ہوگی۔ اس نے کہا ہے کہ:  
”ہمیں مویشیوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا چاہیے .....

قدرت خود ہی اس کا بندوبست بھی کرے گی۔“

یہ آپ ہیں جو اس قدر فکر مند ہو رہے ہیں ..... ہم قطعاً فکر مند نہیں ہو  
رہے۔ قدرت نے ان کو اس حساب سے تخلیق فرمایا ہے کہ جس لمحے آپ انھیں ہلاک  
کرتے ہیں ..... ان کی افزائش دوبارہ ہو جاتی ہے ..... خدا خالق ہے ..... اللہ تعالیٰ  
نے انھیں پیدا فرمایا ہے ..... اگر آپ شیر اور شیر ببر کو ہلاک کریں گے تو ان کی نسل  
نپید ہو جائے گی۔ لہذا ان کو ہماری خوراک نہیں بنایا گیا۔ مویشی ..... ان کو ہماری  
خوراک بنایا گیا ہے ..... خدا نے انھیں اسی حساب سے تخلیق فرمایا ہے ..... اگر ہم خدا  
تعالیٰ کی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو ان کی آبادی کثرت کا شکار ہو جائے گی .....  
اور نباتات کو کامنے کے پارے میں اس نے کیا کہا ہے کہ:

”آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بنا تات استعمال بھی کرتے ہیں تو ان کی ماں ہنوز زندہ ہو گی۔“

لہذا اگر ہم گائے ..... بکری کے پیچے ..... اس کا مطلب ہے کہ ہم انھیں کھا سکتے ہیں؟

ہاں! کیونکہ ان کی ماں ہنوز زندہ ہے..... گائے ہنوز زندہ ہے اور جب بچہ ایک ماں بن جاتی ہے تو ہم ماں کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر میں اس منطق کے

ساتھ اتفاق کروں کہ:

”نباتات اپنا وجود پر قرار رکھتے ہیں۔“

مویشیوں کے ضمن میں:

”نباتات کی نسبت زیادہ وجود قائم ہیں۔“

اگر میں اس منطق کے ساتھ اتفاق کروں۔ مزید برآں میں نے یہ کہا تھا کہ:

”پرہیز علاج سے بہتر ہے۔“

میں ڈاکٹر آنٹش کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جب وہ یہ کہتا ہے کہ:

”بزری خوری کئی ایک بیماریوں میں معادن ثابت ہوتی ہے۔“

میں بھی یہی مشورہ پیش کرتا ہوں..... میں نے کب اس امر سے انکار کیا

ہے؟ لیکن موضوع یہ نہیں ہے کہ:

”کون سی خوارک صحت مند ہے؟“

لیکن یہ بیان دینا کہ:

”یہ انسانوں کے لیے منوع ہے۔“

میں کسی بھی معتبر طبی کتاب کو چیخ کرتا ہوں..... میں ایک ڈاکٹر ہوں..... یہ کتابیں وہ چیزیں پیش کر رہی ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے..... جو کسی تحقیق..... کسی امتحان سے نہیں گزریں..... جو ثابت شدہ نہیں ہیں..... یہ اسلامی طریقہ کار ہے کہ:

”پرہیز علاج سے بہتر ہے۔“

اور یہ آپ کے بہت سے سوالات کے جواب دے گا..... اسلامی طریقہ کار موجود ہے کہ:

”پرہیز علاج سے بہتر ہے۔“

جب ہم مویشی کو کامنے ہیں..... ہم اسے ذبح کرتے ہیں..... ہم مویشی کا

گلا کاٹتے ہیں..... اس کی شرگ پر چھری چلاتے ہیں..... اس طریقہ کار کے تحت جانور کے تمام جسم کا خون اس کے جسم سے باہر بہہ نکلتا ہے۔ خون میں بکثیریا اور جراشیم شامل ہوتے ہیں..... اگر آپ اسلامی طریقہ کار کے تحت جانور کو ذبح کریں تو بہت سی ایسی بیماریوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے جو خون کے ذریعے پھیلتی ہیں..... اور اس کے علاوہ گوشت بھی تادیر تازہ رہتا ہے..... اگر اسلامی طریقہ کار کے تحت جانور ذبح کیا جائے تو لوگ دہائی دیتے ہیں کہ:

”یہ طریقہ ایک بے رحم طریقہ ہے۔“

آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جانور کو کاٹتے ہیں تو آپ بھی ایک بے رحم طریقہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں..... آپ کے طریقہ کار کے تحت جانور درد کی شدت سے بے تاب ہوتا ہوا اپنی جان سے جاتا ہے۔ جب ہم اسلامی طریقہ کار کے تحت جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم اس کی شرگ کاٹتے ہیں لہذا جانور کو درد محسوس نہیں ہوتی..... جانور اگر چہ نانگیں مارتا ہے اور ہلتا جلتا ہے لیکن اس کا یہ عمل درآمد کسی درد کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا یہ عمل درآمد کس وجہ سے ہوتا ہے..... خون کا فوارہ بننے کی وجہ سے ہوتا ہے..... جانور درد یا تکلیف محسوس نہیں کرتا..... جانور درد کی شدت برداشت کرتے ہوئے ہلاک نہیں ہوتا..... وہ بغیر کسی درد کے ہلاک ہوتا ہے۔ ہم خون سے پھیلنے والی کئی ایک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کئی ایک ممالک ایسے ہیں جو مویشی پالتے ہیں۔ وہ ان کو ہار موز کے ٹیکے لگاتے ہیں تاکہ وہ خوب موٹے تازے ہو جائیں۔ ان میں سے ایک طریقے کا حوالہ مسٹر زاویری نے بھی دیا تھا لیکن انہوں نے اس طریقے کا نام نہیں بتایا تھا۔ یہ طریقہ:

کہلاتا ہے۔ یہ ہار مون کا بیکھر ہوتا ہے جو جانور کو لگایا جاتا ہے تاکہ وہ خوب موٹا تازہ ہو جائے اور آپ کو اس کے گوشت کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول ہو سکے.....اسلام میں یہ "حرام" ہے.....اس قسم کے بیکھر زدہ جانور کو اگر آپ اسلامی طریقے کے تحت بھی ذبح کریں تو پھر بھی وہ اسلام میں "حرام" ہے۔ یہ ذبح ضرور ہے لیکن حلال نہیں ہے.....اگر مویشی کو ہار موزن کے بیکھر لگائے گئے ہیں تو ہمارے لیے وہ جانور حلال نہیں ہے اور ہمیں اس گائے کا گوشت کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے جس کی خوراک میں گوشت خوری شامل ہو.....کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

"جس جانور کی پورش میں گوشت خوری شامل ہو.....جس جانور کی خوراک میں گوشت خوری شامل ہو وہ ہمارے لیے منوع ہے۔"

اس کے بعد.....اگر آپ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں اور گوشت کو بہتر طریقے سے پکائیں.....بہت سی بیماریاں جن کا ذکر مسٹر زاویری نے فرمایا ہے.....تمام تر نہیں.....مگر ان میں سے بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔

گوشت خوری کے ضمن میں سب سے خطرناک گوشت سور کا ہوتا ہے جو کہ بکثرت استعمال کیا جاتا ہے.....اس میں 70 سے زائد بیماریاں شامل ہوتی ہیں جو آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں.....یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے کم از کم چار مختلف مقامات پر فرمایا ہے:

✿ سورۃ البقرہ.....سورۃ نمبر 2.....آیت نمبر 173

✿ سورۃ مائدہ.....سورۃ نمبر 5.....آیت نمبر 3

✿ سورۃ النعام.....سورۃ نمبر 6.....آیت نمبر 145

سورة غل.....سورہ نمبر 16.....آیت نمبر 115

فرمان مبارک ہے کہ:

”اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت  
اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔“

یہ حرام ہے۔ لہذا ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں اور اس طرح ہم گوشت  
خوری سے لاحق ہونے والی کئی ایک بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

سورة طہ.....سورہ نمبر 20.....آیت نمبر 81 میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ:

”کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تحسین روزی دیں اور اس میں  
زیادتی نہ کرو۔“

بہت سی ایسی بیماریاں جن کا ذکر راشی بھائی زاویری نے کیا تھا وہ بسیار خوری  
کی بنا پر لاحق ہوتی ہیں۔ اگر آپ سبزی خوری کے ضمن میں بھی بسیار خوری سے کام  
لیں گے تو بھی آپ کئی ایک بیماریوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔۔۔ میں یہ نہیں کہتا کہ  
آپ سبزی خوری نہ کریں۔۔۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔۔۔ میں سبزی خوری کے خلاف  
نہیں ہوں۔۔۔ لہذا اگر آپ بسیار خوری سے پرہیز کریں تو آپ بہت سی بیماریوں  
سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔۔۔ اگر اسلام کے قوانین پر عمل درآمد کریں۔۔۔ اسلامی طریقہ  
کے تحت جانور کا نہیں۔۔۔ یعنی انھیں اسلامی طریقہ کار کے تحت ذبح کریں۔۔۔ اس  
کے جسم کا تمام خون بہہ جانے دیں۔۔۔ اس کو ہارمونز کے میکے نہ لگائیں۔۔۔ خوراک کو  
بہتر طور پر پکائیں۔۔۔ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں۔۔۔ سور کے گوشت  
سے پرہیز کریں۔۔۔ بسیار خوری سے پرہیز کریں۔۔۔ تو آپ بہت سی بیماریوں سے  
نفع سکتے ہیں۔۔۔ اگرچہ یہ بہت سے دلائل کا جواب ہے لیکن کچھ ابھی بھی باقی ہیں۔۔۔ اگر  
وقت نے اجازت دی اور اگر سوال جواب کے اجلاس میں آپ نے اس بارے میں

سوال کیا تو میں انشاء اللہ ضرور جواب دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ صحت بخش غذاوں کی بات کر رہے ہیں..... تمام تحقیق اور تجربات کی بات کر رہے ہیں..... میں اس چیز کے بارے میں بات کروں گا جو ایک حقیقت ہے۔  
ڈاکٹر ولیم کے مطابق..... ایک نامور اور مشہور و معروف ہستی..... ڈاکٹر ولیم کہتے ہیں کہ:

”بزری خوری کی بدولت انسانی زندگی میں چھ برس سے زائد عرصے کا اضافہ ممکن ہوتا ہے..... اگر آپ بزری خوری کریں تو آپ گوشت خوری کرنے والے کے مقابلے میں چھ برس زائد زندہ رہ سکتے ہیں۔“

دوبارہ منافقت..... اگر آپ تجزیہ سرانجام دیں..... ان تمام لوگوں کے اعداد و شمار جمع کیے گئے تھے جو 1932ء تا 1952ء کے دوران ایک صد برس سے زائد زندہ رہے تھے اور ان اعداد و شمار کی بنیاد پر اوسی گیز نامی ایک شخص نے ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا:

### Living to be Hundred

یعنی ”سو برس تک زندہ رہنے کا راز“..... 1200 لوگ جو سو برس تک زندہ رہے..... اور وہ کیسے زندہ رہے..... ہر ایک چیز اس کتاب میں درج ہے..... حتیٰ کہ ان کی خواراک بھی درج ہے..... کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 1200 افراد میں سے کتنے افراد بزری خور تھے؟ کتنے..... اندازہ کریں؟ کیا 1000 افراد بزری خور تھے!..... چار چار!..... چار۔

یہ سروے بزری خوری یا گوشت خوری کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا..... یہ دیگر مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا گیا تھا..... لیکن خواراک کا ذکر بہر کیف کیا

گیا تھا..... یہ ایک حقیقت ہے..... یہ ایک تحقیق نہیں ہے..... یہ ایک حقیقت ہے۔  
ان افراد میں سے جو سو برس تک زندہ رہے مغض چار افراد بزری خور تھے۔  
آپ جانتے ہیں الکھل؟ الکھل اکیلی..... کیا یہ ایک بزری خوری پر منی غذا ہے یا گوشت  
خوری پر منی؟ الکھل بزری خوری ہے یا گوشت خوری ہے؟..... بزری خوری پر منی  
ہے..... پھلوں کے جوس کی بدولت..... اور الکھل سے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں وہ ان  
بیماریوں سے کہیں بڑھ کر ہیں جو گوشت خوری کی بنا پر جنم لیتی ہیں..... ایک بزری  
خوری پر مشتمل غذا! مغض الکھل..... میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام تر بزری خوری پر منی  
غذاؤں پر پابندی عائد کر دی جائے۔ آج سائنس دان..... اور ممکن ہے کہ وہ بھی  
اتفاق کرے..... یہ کتاب میں بھی درج ہے..... آج کل اموات کا زیادہ تر سبب  
الکھل ہے..... نمبر ایک سبب..... لہذا میں بزری خوری پر منی تمام غذاؤں پر پابندی کے  
حق میں نہیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟..... جیسا کہ قرآن پاک سورہ مائدہ..... سورۃ  
نمبر 5..... آیت نمبر 90 میں فرماتا ہے کہ:

”اے ایمان والو شراب، جوا اور بت پانے ناپاک ہی ہیں۔

شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔“

الکھل شیطانی کام ہے..... اس سے بچیں..... میں نے مغض الکھل کو ممنوع  
قرار دیا ہے..... نہ کہ تمام بزری خوری پر منی غذاؤں پر ممنوعہ قرار دیا ہے اور سگریٹ  
نوشی..... دنیا میں اموات کا دوسرा بڑا سبب..... یہ بزری خوری کی ذیل میں آتا ہے یا  
گوشت خوری کی ذیل میں آتا ہے؟ بزری خوری کی ذیل میں آتا ہے۔ کیا آپ  
الکھل سے جنم لینے والے بیماریوں سے فجع سکتے ہیں؟ آپ اس صورت میں الکھل سے  
جمن لینے والی بیماریوں سے فجع سکتے ہیں؟ آپ الکھل کے استعمال سے احتساب  
برتیں..... کیا آپ سگریٹ نوشی سے جنم لینے والی بیماریوں سے فجع سکتے ہیں..... ان

سے بچنے کے لیے تمباکو نوشی سے پرہیز کجھے..... واحد حل ان سے بچنا ہے..... اگر ان سے بچانہ جائے تب ان کو ممنوعہ قرار دینے کا سوال زیر غور آتا ہے..... لہذا الکھل ممنوعہ ہے..... اسلامی مفکرین نے 400 سے زائد فتاویٰ جاری کیے ہیں..... کہ سگریٹ نوشی ممنوعہ ہے کیونکہ اس سے بچانیس جاتا۔

بہت سے ممالک نے الکھل کو ممنوعہ قرار دے رکھا ہے۔ ان ممالک میں سعودی عرب بھی شامل ہے..... ہندوستان کی کئی ریاستوں نے اسے ممنوعہ قرار دیا ہوا ہے..... سنگاپور میں عوامی مقامات پر سگریٹ نوشی ممنوعہ قرار دی گئی ہے..... سرکاری اداروں اور عوامی ذرائع نقل و حمل میں بھی اسے ممنوعہ قرار دیا گیا ہے..... اگر کسی ایسی چیز سے بچنا ممکن نہ ہو تو آپ اس کے استعمال پر پابندی عائد کر سکتے ہیں..... میں کسی ایسے ملک کو نہیں جانتا جس نے گوشت خوری کی ذیل میں آنے والی تمام تر غذاؤں پر عام پابندی عائد کی ہو..... کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے..... ہاں البتہ گوشت خوری کی ذیل میں آنے والی کچھ غذاؤں مثلاً سور کے گوشت پر سعودی عربیہ نے پابندی عائد کر رکھی ہے..... اس سے بجاو ممکن نہیں تو اس پر پابندی عائد کر دیں..... اگر بجاو ممکن نہ ہو تو آپ اسے ممنوعہ قرار دے دیں اور مباحثہ یہ نہیں تھا کہ:

”کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے..... سبزی خوری یا گوشت خوری؟“

مباحثہ کا موضوع یہ تھا کہ:

”گوشت خوری کی اجازت ہے یا گوشت خوری ممنوع ہے۔“

میں نے 20 سے زائد نکات کی فہرست پیش کی تھی۔ لہذا میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسٹر رائٹی بھائی زاویری نے محض اس لیے 15 منٹ قبل از وقت ہی اپنی گفتگو ختم کر دی تھی کہ ان نکات کا جواب نہ دینا پڑے..... اگر آپ مجھے ایک گھنٹہ مزید عطا فرمادیں تو میں اپنا خطاب جاری رکھوں گا۔

آپ جانتے ہیں کہ ”پانی“ ..... پانی کے ذریعے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں ..... ہیضہ ..... نائیفایڈ ..... یرقان اور دیگر کئی ایک بیماریاں پانی کے ذریعے پھیلتی ہیں ..... میں محض ”پانی“ پر ہی سیر حاصل گفتگو کر سکتا ہوں۔ آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ پانی پر پابندی عائد کر دیں گے؟ نہیں ..... آپ کے لیے ان بیماریاں سے بچنا ممکن ہے ..... آپ پانی کو صاف کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے پھینے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں ..... دودھ کو تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے ..... اس میں بھی بہت سی بیماریوں کے جرا شیم موجود ہوتے ہیں ..... آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ دودھ پر پابندی عائد کر دیں گے ..... آپ اسے پا پھرائیزڈ کریں گے ..... آپ اس پر پابندی عائد نہیں کریں گے ..... آپ اسے منوعہ قرار نہیں دیں گے۔

لہذا اگر آپ بیماریوں سے نہیں فجع سکتے تو کیا آپ اسے منوعہ قرار دے دیں گے۔ میں نے بہت سی وجوہات پیش کی ہیں جن کا جواب مسٹر راشی بھائی زاویری نے نہیں دیا۔ ایک بھی حکومت ایسی نہیں ہے جس نے گوشت خوری پر عمومی پابندی عائد کی ہو ..... کوئی بھی بڑا نہ ب ایسا نہیں ہے جس نے گوشت خوری پر عمومی دی پابندی عائد کی ہو ..... لہذا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ گوشت خوری جائز ہے ..... گوشت خوری کی اجازت ہے ..... یہ منوعہ نہیں ہے۔

اگر میں نے کسی سبزی خور کے جذبات کو خیس پہنچائی ہو ..... اپنے پیشوہ مقرر کے سوالات کے جواب دینے کے دوران اگر میں نے کسی سبزی خور کے جذبات کو خیس پہنچائی ہو تو میں اس کے لیے تہہ دل سے مغدرت خواہ ہوں۔

میں قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل ..... سورۃ نمبر 17 کی آیت نمبر 81 کا حوالہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو اختتام کو پہنچانا چاہوں گا کہ:

”اور فرماؤ کے حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو منداہی تھا۔“

(تالیاں)

(ڈاکٹر محمد)

اب ہم سوال جواب کا کھلا اجلاس شروع کریں گے۔ محدود اور مختصر وقت سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی غرض سے ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ درج ذیل قوانین مدنظر رکھیں تاکہ سوال جواب کے لیے دستیاب محدود اور مختصر وقت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ممکن ہو سکے۔

● آپ کے سوالات متعلقہ موضوع پر ہونے چاہئیں۔

● آج کا موضوع یہ ہے کہ:

”انسانوں کے لیے گوشت خوری جائز ہے یا ناجائز؟“

● موضوع سے ہٹ کر کیے گئے سوالات کی اجازت نہ ہوگی۔

● براہ مہربانی اپنا سوال مختصر طور پر بیان کریں۔

● آپ کا سوال ایک پامقصد سوال ہونا چاہیے۔

● یہ ایک مباحثہ کا اجلاس نہیں ہے بلکہ سوال جواب کا اجلاس ہے۔

● مسٹر زاویری اور ڈاکٹر ڈاکٹر سے درخواست ہے کہ وہ سوالات کے مفصل

● جواب دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مدنظر رکھیں کہ ہر ایک جواب کا

● دورانیہ پانچ منٹ سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔

● ہال میں چار ماںک مہیا نکیے گئے ہیں۔ دو ماںک مردوں کے لیے اور دو

● ماںک عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔

● اگر آپ مسٹر زاویری سے سوال پوچھنا چاہیں تو آپ اس ماںک کے پیچھے

● قطار میں کھڑے ہوں جس پر لکھا ہوا ہے کہ:

● ”سوہل برائے مسٹر زاویری۔“

● اور اگر آپ ڈاکٹر ڈاکٹر سے سوال پوچھنا چاہیں تو اس ماںک کے پیچھے قطار

میں کھڑے ہوں جس پر لکھا ہوا ہے کہ:  
”سوال برائے ڈاکٹر ڈاکٹر“

ایک وقت میں محض ایک ہی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو دوسرا سوال پوچھنا ہے تب آپ کو دوبارہ قطار کے آخر میں کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے دوسرے موقع سے فائدہ اٹھانے کا منظر رہنا ہوگا۔

تحریری سوالات دوسری ترجیح ہوں گے۔ اگر وقت نے اجازت فراہم کی تب تحریری سوالات کے جواب بھی پیش کیے جائیں گے۔ آپ اپنی تحریر میں یہ بھی واضح کریں کہ آپ کس سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں..... مسٹر زاویری سے یا ڈاکٹر ڈاکٹر سے..... وگرنہ آپ کا سوال زیر غور نہیں لایا جائے گا۔

اس طرح مقرر حضرات آپ کے سوالات کے بہتر جواب دینے کے قابل ہو سکیں گے۔

بھائی ہم پہلا سوال آپ کی طرف سے وصول کرتے ہیں..... یہ سوال مسٹر زاویری کے لیے ہے؟

جی ہاں..... معزز مہمان خصوصی اور مسٹر زاویری سوال: میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کئی ایک حوالوں سے گوشت خوری ممنوع ہے..... اور آپ نے اپنے لارڈ مہاواری کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ مہاواری نے یہ کہا تھا کہ:

”جانوروں کو ہلاک کرنا اور دوسروں کی جان لے کر خوشی کے شادیاں بھانا ممنوع ہے۔“

آپ مجھے یہ بتائیں کہ:

”کیا مہاویر نے یہ کہا ہے کہ آپ سبزی خوری کر سکتے ہیں؟“  
 میرا مطلب ہے کہ مہاویر بھی بذات خود نہیں جاتا ہوگا کہ جائے اور درخت  
 کاٹے اور اپنے لیے سبزی خوری کا بندوبست کرے بلکہ وہ ہمیشہ درخت کے نیچے  
 برا جہان رہتا ہوگا اور جو خوراک وہ استعمال کرتا ہوگا وہ زیادہ تر پھلوں پر مشتمل ہوتی  
 ہوگی جو اس درخت سے گرتے ہوں گے جس کے نیچے وہ برا جہان رہتا تھا کیونکہ آپ  
 نے سبزی خوری کے موضوع پر بات کی ہے اور گوشت خوری کو منوع قرار دیا ہے .....  
 براہ مہربانی مجھے یہ بھی بتائیں کہ جین مت کے نظریات کیا ہیں ..... کیونکہ آپ جو کچھ  
 کہتے رہے ہیں وہ سب کچھ یہ تھا کہ جو کچھ مہاویر کہتا ہے ..... جو کچھ مہاویر کہتا ہے۔  
 (مسڑزاویری)

جناب ..... میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں ..... میں اس کا جواب پیش  
 کروں گا۔ دیکھیں ..... میں نے جس لارڈ کا ذکر کیا تھا کہ لارڈ مہاویر نے جو کہا ہے  
 وہ یہ ہے کہ:

” حتیٰ کہ نباتات بھی جاندار ہیں۔ وہ بھی زندگی کے حامل ہیں۔“  
 اور وہ مزید کہتے ہیں کہ:

” جین مت کی مذہبی کتب کے مطابق حتیٰ کہ ”جین منی“ کے  
 لیے سبزی خوری کی بھی ممانعت ہے۔“

لیکن پابندیوں کی بنا پر ہر کوئی ”جین منی“ نہیں بن سکتا ..... یہی وجہ کہ  
 انہوں نے کہا تھا کہ:

” کم از کم جانوروں کی غیر ضروری ہلاکتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔“  
 انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ:

” سبزی خوری یا نباتات خوری کی اجازت ایک ”جین منی“ کو

حاصل ہے۔“

(ڈاکٹر محمد)

جی ہاں بہن..... ڈاکٹر ڈاکر کے لیے سوال

سوال: ڈاکر بھائی السلام علیکم

میرا نام ہمامیہ ہے..... میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔

سبزی خوروں کی سوسائٹی کی جانب سے کئی ایک اشتہارات تقسیم کیے گئے

تھے جس میں قرآن پاک کی سورۃ حج کے حوالے سے یہ تحریر کیا گیا تھا کہ:

”اللہ تعالیٰ کو آپ کے گوشت اور خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے

بلکہ تمہارا وہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔“

اس حوالے سے انہوں نے ثابت کیا تھا کہ:

”اسلام اس امر سے منع فرماتا ہے کہ حض اپنی خوراک بنانے کی

خاطر جانوروں کو ہلاک کیا جائے۔“

جانوروں سے صلدہ رحمی کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے

کئی ایک حوالے دیے گئے تھے۔

(ڈاکٹر ڈاکر)

میں اس بہن کا شکریہ ادا کرنا پسند کروں گا..... انہوں نے ایک بہت ہی

بنیادی سوال پوچھا ہے..... کہ کئی ایک اشتہارات کسی ادارے کی جانب سے تقسیم کیے

گئے تھے..... جن میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ

مسلمانوں کو گوشت خوری نہیں کرنی چاہیے..... یہ منوع ہے اور یہی بات اس مبانی

کا سبب ثابت ہوئی ہے۔ میں اس مسئلے میں نہیں پڑتا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جانتے

ہیں کہ انہوں نے مجھے باور کروایا ہے کہ میں مذہبی معاملات سے دور رہوں ..... لیکن

چونکہ یہ ایک سوال ہے لہذا میں جواب دینے پر مجبور ہوں ..... یہ وہ اشتہارات تھے جو رشیح فاؤنڈیشن کے صدر دھن راج سالیچا نے شائع کروائے تھے ..... اور یہی اس مبانی کا محرك ثابت ہوئے تھے۔ اس نے اس اشتہار میں قرآن پاک سے بھی حوالہ دیا تھا۔ میں ابھی آپ کو وہ حوالہ پیش کروں گا ..... اس کے اشتہار میں حوالہ غلط طور پر پیش کیا گیا ہے ..... اس نے قرآن پاک کی سورۃ الحج ..... سورۃ نمبر 22 ..... آیت نمبر 37 کا حوالہ پیش کیا ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے:

”اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون۔ ہاں تمہاری پرہیز گاری اس تک پاریاب ہوتی ہے۔“

اور میں اس امر کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں ..... یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ:

”اسلام دیگر کئی ایک مذاہب کی طرح نہیں ہے جو اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا کو زندہ رہنے کے لیے خون اور گوشت کی ضرورت ہوتی ہے۔“

اس آیت مبارک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ:

”جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی کا خون خدا تک نہیں پہنچتا ..... قربانی کا گوشت خدا تک نہیں پہنچتا ..... یہ تمہاری نیت ہے ..... یہ تمہاری پرہیز گاری ہے ..... یہ تمہارا تقویٰ ہے جس کے تحت تم قربانی کرتے ہو اور اللہ تمہاری نیت ..... تمہاری پرہیز گاری اور تمہارے تقویٰ کو مد نظر رکھتا ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ جب عید الاضحیٰ (عید قربان) کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے تو یہ لازم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کا 1/3 حصہ غرباء میں تقسیم کیا جائے ..... 1/3 حصہ دوستوں اور عزیزیوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ..... اور 1/3 حصہ

آپ اپنے استعمال کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حصہ مخصوص نہیں کیا جاتا کیونکہ قرآن پاک سورۃ انعام ..... سورۃ نمبر 6 ..... آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے کہ:

”اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھلاتا ہے ..... وہ سب کا رازق ہے ..... سب کو رزق عطا فرماتا ہے ..... لیکن وہ کھانے سے پاک ہے ..... اسے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے ..... یہ آیت مبارکہ یہ واضح کرتی ہے کہ:

”جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیت دیکھتا ہے۔“

اسے قربانی کے جانور کے خون اور گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔“

ایک اور حوالہ بھی دیا گیا ہے ..... بلکہ کئی ایک حوالے دیے گئے ہیں ..... ان تمام حوالوں کا جواب دیتے ہوئے مجھے کم از کم ایک گھنٹہ درکار ہو گا۔  
میں قرآن پاک کے حض وسرے حوالے کا ذکر کروں گا۔

سورۃ البقرہ ..... سورۃ نمبر 2 ..... آیت نمبر 20 کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ:

”وہ زمین پر فساد کرتے ہیں۔ فصلیں اور مویشی تباہ کرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

یہ حوالہ دینے کے بعد اس کے نیچے یہ لکھا گیا ہے کہ:

”آپ کو گوشت خوری نہیں کرنی چاہیے۔“

اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے ..... دیگر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ ..... سورۃ نمبر 2 ..... آیت نمبر 168 میں فرماتا ہے کہ:

”اے لوگو کھاؤ جو پکھڑ میں میں ہے حلال پا کیزہ ہے۔“  
جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے ..... جی ہاں ..... بہت سی احادیث مبارکہ

موجود ہیں۔

اگر آپ صحیح بخاری شریف ..... جلد نمبر 3 ..... حدیث مبارکہ نمبر 551 اور  
صحیح بخاری شریف ..... جلد نمبر 8 ..... حدیث مبارکہ نمبر 38 کا مطالعہ کریں تو:  
اس میں ایک شخص کا ذکر ہے جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی  
پلایا تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ:  
”اے اس کا اجر ملے گا۔“

الہذا لوگوں نے عرض کی کہ:

”اگرچہ ایک پیاسے کتے کو بھی پانی پلایا جائے تو اس کا بھی اجر  
ملے گا؟“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ:  
”ہاں ..... تم کسی بھی جانور کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرو گے تو  
تمھیں اس کا اجر ملے گا۔“

آپ اندازہ کریں کہ جہالت کے دور میں ..... 1400 برس پہلے جبکہ  
انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا ..... ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی  
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں فرمادیا تھا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:  
”جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ لادو۔“

آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہندوستان میں قانون کے مطابق دو بیلوں  
والے چکڑے پر 500 کلوگرام وزن لادنے کی اجازت ہے لیکن لوگ اس پر ایک شن

سے زائد بوجھ لا دیتے ہیں۔

پنیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

”جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو..... ان کے ساتھ برا سلوک  
مت کرو..... ان کو مت مارو۔“

صحیح مسلم شریف..... جلد نمبر 3..... حدیث نمبر 4810 میں بیان کیا گیا ہے کہ:

”جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو تو تمہاری چھری کی دھار تیز  
ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف اور درد محسوس نہ ہو۔ ایک جانور  
کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح ہرگز نہ کرو۔“

پنیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے حقوق سے بھی  
آگاہ فرمایا ہے..... ہمیں ان کے حقوق کا تحفظ سرانجام دینا چاہیے..... لیکن خوراک  
کے لیے..... کھانے کے لیے..... آپ حلال جانوروں کا گوشت کھائتے ہیں۔  
میرا خیال ہے اس سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔

(ڈاکٹر محمد)

جی ہاں بہن

سوال: ”اٹھے کے بارے میں 100 حقائق،“ نامی کتاب صفحہ نمبر 8 اور 9 پر یہ  
درج ہے کہ:

”اہل اتحوپیا کا یہ نظریہ ہے..... اگر حاملہ عورت اٹھا کھائے گی تو  
اس کا بچہ گنجہ پیدا ہوگا۔“ (حقائق نمبر 13)

اس کتاب کے حقائق نمبر 13 میں بیان کیا گیا ہے کہ:

”کچھ افریقی ممالک اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر بچے کے  
دانٹ نکلنے سے پیشتر اسے اٹھا کھلایا جائے تو اس کی ہنی ترقی

رک سکتی ہے۔“

کیا یہ سائنسی حقائق ہیں یا محض مفروضے ہیں؟ اگر آپ ان کو سائنسی حقائق قرار دیتے ہیں تو کیا آپ ان کو سائنسی حقائق ثابت کر سکیں گے..... اگر آپ ان کو مفروضے قرار دیتے ہیں تو پھر آپ ان کتابوں کے ذریعے کیوں جھوٹ کا بول بالا کر رہے ہیں..... مہربانی

(مسٹر زاویری)

شکریہ بہن..... پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب نہیں لکھی..... میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب آپ کو نہیں پیش کی ہے۔ تیسرا بات یہ ہے کہ میں نے اس کتاب سے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا ہے۔ لہذا میرے لیے یہ ضروری نہیں کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں..... بالخصوص اس کتاب کے بارے میں..... میں اپنے موضوع سے متعلقہ سوالات کے جوابات دینے کا پابند ہوں..... کیونکہ انٹے میں زیادہ مقدار پروٹین..... کویٹرول اور چکنائی وغیرہ پائی جاتی ہے..... عین ممکن ہے کہ یہی وجہ ہو کہ وہ انسانی صحت کے لیے موزوں نہ ہو..... اور بالخصوص حاملہ خواتین اور بچوں کے لیے۔

(ڈاکٹر محمد)

جی ہاں..... اگلا سوال ماٹک کے توسط سے دامیں جانب سے  
سوال: میرا نام فضل سارنگ ہے..... پیشے کے لحاظ سے میں ایک آرکیٹکٹ ہوں..... میرا ڈاکٹر ڈاکر سے سوال یہ ہے کہ:  
”کیا گوشت پر مشتمل غذاء کی یماری کا واحد سبب ہے؟“

(ڈاکٹر ڈاکر)

اب بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ:

”کیا گوشت پر مشتمل غذا میں دل کی بیماری کا واحد سبب ہے؟“

اور یہ اکشاف مسٹرز اویری نے کیا تھا کہ:

”گوشت..... جانوروں کا گوشت گائے، بکرے اور مرغ کا

گوشت دل کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔“

یہ دل کی بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے درست فرمایا تھا اور انہوں

نے مزید فرمایا تھا کہ:

”کوئی بھی سبزی ایسی نہیں ہے جس میں کولیسٹرول پایا جاتا ہو۔“

اگر آپ یہ بات کسی ڈاکٹر کو بتائیں..... اگرچہ وہ نظریاتی طور پر سبزی خور

نہ بھی ہو تو وہ آپ کی بات سے اتفاق کرے گا۔

دل کی بیماری اس وقت لائق ہوتی ہے جب آپ ایسی غذا میں استعمال

کریں جن میں چربی (چکناہٹ) اور کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو خواہ وہ غذا میں

گوشت خوری کے حوالے سے ہوں یا سبزی خوری کے حوالے سے ہوں۔

گوشت پر مشتمل غذا میں بھی زیادہ کولیسٹرول کی حامل ہو سکتی ہیں حتیٰ کہ

بنا تاتی غذا میں مثلاً ناریل..... گھی..... مکھن..... کاجو..... موگ پھلی وغیرہ..... یہ تمام

غذا میں بھی زیادہ کولیسٹرول کی حامل ہیں..... حتیٰ کہ ایک عام خاتون خانہ بھی جانتی

ہے..... آپ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ ذرا لئے ابلاغ میں اشتہارات دیکھنے اور سننے کو

ملتے ہیں کہ:

”سفولاً آئکل استعمال کیجئے..... اور دل کی بیماری سے محفوظ رہیے۔“

یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ دیگر آئکل دل کی بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ مسٹر راشی بھائی

زاویری مجھے جواب دیں کہ:

”کیا مکھن مرغن ہوتا ہے یا نہیں؟“

اور ڈاکٹر دل کے مریض کو بتاتے ہیں کہ:

”مرغن غذاوں سے پرہیز کرو..... مکھن کے استعمال سے پرہیز کرو..... موگ پھلی کے تیل سے پرہیز کرو۔ کا جو کے تیل سے پرہیز کرو۔“

انھوں نے یہ آئندیا کہاں سے اپنایا..... ان کتب سے..... یہ کتب جو انھوں نے مجھے بھی دیں..... درست ہے؟..... یہ کتاب آپ نے میرے بھائی کو دی تھی..... اس کتاب میں بھی وہی چیز درج ہے..... کہ:

”سبزیوں میں کولیشوروں نہیں پایا جاتا۔“

میں اگر سوچتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے..... کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں مسٹر زاویری سے ملاقات کر رہا ہوں..... اگر انھوں نے یہ کتابیں نہ دی ہوئیں..... میں معدورت چاہتا ہوں لیکن..... لیکن ایک بات کہ یہ تمام تر کتابیں جیں اداروں نے چھاپی ہیں..... آپ جانتے ہیں..... اور بھی میں تقسیم کی گئی ہیں..... گھٹیا حرکت..... گھٹیا حرکت..... میں کسی کو الزام نہیں دے رہا۔

(مسٹر زاویری)

”براہ مہربانی..... برداشت مہربانی۔“

(ڈاکٹر ڈاکر)

”میں کسی کے احساسات کو محروم کرنا نہیں چاہتا۔“

(مسٹر زاویری)

”ہمیں اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے۔“

(ڈاکٹر ڈاکر)

”میں..... میں کسی کے احساسات محروم کرنا نہیں

چاہتا..... مجھے افسوس ہے..... میں یہ سب کچھ کہنا نہیں چاہتا  
 تھا..... میں مجھے یہ سب کچھ کہنے پر مجبور کیا گیا..... میں نہیں  
 چاہتا..... اگر ویسا نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے..... تو آپ  
 کہہ دیں کہ یہ جین مت نظر یے کے حامل مصنف کی لکھی ہوئی  
 نہیں ہیں.....”

(مسٹر زاویری)

”نہیں..... ذاکر ذاکر آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے جواب دینا چاہیے۔“

(ڈاکٹر محمد)

”مذدرت چاہتا ہوں۔“

(ڈاکٹر ذاکر)

”سوال جواب کے اجلاس میں آپ کے پاس ایک موقع ہے۔“

(ڈاکٹر محمد)

”جناب۔ جناب..... میں آپ کو وقت دوں گا..... آپ جانتے  
 ہیں کہ اپنے وقت کے دوران آپ بواپسی جواب دے سکتے  
 ہیں..... میں آپ کو بواپسی جواب کا وقت دوں گا..... جو کچھ بھی  
 آپ چاہتے ہوں..... اپنے وقت کے دوران۔“

(ڈاکٹر ذاکر)

”میں چیزِ میں صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے ایک  
 منٹ مزید دیں۔“

(ڈاکٹر محمد)

”نہیں..... ہم آپ کو ایک مزید منٹ نہیں دیں گے۔“

(ڈاکٹر ڈاکر)

دیکھیں کیونکہ بہت سارے الزامات ہیں..... "انڈا" ..... انھوں نے بتایا کہ:

"انڈا وجہ ہے۔"

اور یہ کہ انڈے میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے..... اس میں کولیسٹرول وافر مقدار میں پایا جاتا ہے..... لیکن یہ ایک بڑا سبب نہیں ہے..... بڑی وجہ نہیں ہے۔ آج کل کی تحقیق اور طب کی کتب بھی یہی کہتی ہیں کہ:

"انڈے میں پائی جانے والی کولیسٹرول بڑا دشمن نہیں ہے بلکہ بڑا دشمن وہ ہے جس میں آپ انڈا فرائی کرتے ہیں مثلاً مکھن..... گھنی وغیرہ..... یہ بڑے دشمن ہیں۔"

اگر آپ انڈے کو گھنی یا مکھن وغیرہ میں فرائی نہ کریں..... تو انڈے کی بدولت آپ کے دل کی بیماری میں گرفتار ہونے کے موقع بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اور آج کل آبادی کا دو تہائی حصہ کولیسٹرول کی زیادتی کے مرض کا شکار نہیں ہے۔ ایسے لوگ جس لمحے زیادہ کولیسٹرول کی حامل اشیاء مثلاً انڈا وغیرہ استعمال کرتے ہیں..... ان کا جگر فوری طور پر کولیسٹرول بنانے کا اپنا فعل منقطع کر دیتا ہے اور ان کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار نارمل سطح پر برقرار رہتی ہے۔

ایک تہائی آبادی کولیسٹرول کی زیادتی کے مرض کا شکار ہے..... ان کے لیے مسئلہ ہیں..... ان کو انڈے کی زردی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ وگرنہ اگر آپ روزانہ ایک یا دو انڈے استعمال کرتے ہیں..... تو آپ کو کسی قسم کی دل کی کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہوتی..... اگر آپ انڈے کو گھنی میں فرائی کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے..... اگر آپ موگ پھلی کے تیل میں فرائی کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے..... آپ گنجے پن کا شکار ہو سکتے ہیں..... میں

مثال دینا نہیں چاہتا..... میں مثال دینا نہیں چاہتا..... اگر آپ اس ہال میں پڑتاں کریں ..... تو کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھے ہیں ..... کئی ایک فلاسفرا یے تھے جو سمجھے تھے ..... میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا..... میں آپ کے احساسات کو محروم نہیں کرنا چاہتا ..... لہذا یہ چیز ایک تحقیق پر بنی ہے جو غیر منطقی مفروضات پر بنیاد کرتی ہے ..... ایک تحقیق عملی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور دل کی تکلیف کے دیگر متعلقہ عوامل میں الکھل اور سگریٹ نوشی شامل ہے۔ یہ دونوں بھی دل کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ جی ہاں! امریکہ میں دل کی تکلیف میں بمتلا افراد میں سے زیادہ تعداد ان افراد کی ہے جو گوشت خور ہیں کیونکہ وہ مرغن غذا میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔

قرآن پاک فرماتا کہ:

”اور اس میں زیادتی نہ کرو۔“

اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں بزری خوری ایک عیاشی تصور کی جاتی ہے۔ لہذا وہاں بزری خور کم ہیں کیونکہ بزری پر مشتمل غذا میں وہاں پر مہنگی ہیں۔ اگر آپ کے پاس مرسید یعنی گاڑی ہے تو آپ کا اٹیشن ہے ..... اگر آپ بزری پر مشتمل غذا کھاتے ہیں یہ بھی آپ کا اٹیشن ہے۔ لہذا امریکہ میں حض 3 تا 7 فیصد بزری خور موجود ہیں ..... ایک فیصد سے بھی کم خالص بزری خور ہیں کیونکہ وہ امیر افراد ہیں اور وہ اپنی صحت کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں اور بہت سے بزری خور ..... حتیٰ کہ مسٹر رائٹی بھائی زاویری جیسے بھی یہ تسلیم کریں گے کہ الکھل منوع ہے ..... سگریٹ نوشی منوع ہے کیونکہ یہ بھی دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص ایسی غذا کا استعمال کرتا ہے جس میں روغنیات یا کوئی مشروط زیادہ پائی جاتی ہے ..... قطع نظر اس امر کے کہ یہ غذا بزری پر مشتمل ہے یا گوشت پر مشتمل ..... وہ شخص دل کی بیماری میں گرفتار ہو سکتا ہے۔

اس سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی رہنمائی کی پیروی کی جائے۔ قرآن پاک سورۃ طہ ..... سورۃ نمبر 20 ..... آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے کہ:

”کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمھیں روزی دیں اور اس میں زیادتی نہ کرو۔“

(ڈاکٹر محمد)

ہاں جی بھائی

سوال: یہ سوال مسٹر راشی زادویری سے ہے ..... یہ ایک کتاب جو میرے پاس موجود ہے۔ اس کا نام ہے۔

”گوشت خوری ..... 100 حکائیں“

(ڈاکٹر محمد)

آپ اپنا سوال مناسب طور پر دھرا میں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟

(سوال جاری ہے)

یہ ایک کتاب ہے جو جین پبلیکیشن نے چھاپی ہے ..... چونکہ آپ بھی ایک جین ہیں ..... میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ..... کتاب کا نام ہے: ”گوشت خوری ..... 100 حکائیں“

اس کتاب کے مصنف کا نام ڈاکٹر نامی چند ہے ..... اس کتاب میں گوشت خوروں کے بارے میں ایک کارٹون بنایا گیا ہے جو کہ تو ہیں آمیز ہے ..... میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جین مت والوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں اور لوگوں کے جذبات محرود کریں؟ براہ مہربانی جواب دیں۔

(ڈاکٹر محمد)

مقرر آپ کے سوال کا جواب دینا پسند نہیں کرتے ..... میں نے انھیں مکمل

اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ ایسے سوال کے جواب سے انکار کر سکتے ہیں جس کو وہ مناسب نہیں سمجھتے۔

(سوال جاری ہے)

”لیکن میں تو محض یہ پوچھ...“

(ڈاکٹر محمد)

دیکھیں مقرر کو حق حاصل ہے..... میں سوالات کرنے والوں سے درخواست کروں گا وہ فکر مند نہ ہوں اور نہ ہی خفا ہوں۔ مقررین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی ایسے سوال کے جواب سے معذرت کر سکتے ہیں جس کو وہ درست نہ سمجھیں..... یا مناسب تصور نہ کریں..... براہ مہربانی آپ یہ امر زہن میں رکھیں۔

لہذا آپ اپنے سوالات ایسے انداز میں پیش کریں جو ایک سمجھنا ہو انداز ہو اور آپ کے سوالات بھی سمجھے ہوئے ہونے چاہیں..... یہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہونے چاہیں..... آپ اپنے سوالات میں اپنے تہرجے پیش کرنے سے گریز کریں..... اپنی رائے کا اظہار کرنے سے گریز کریں بلکہ مقرر کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیں۔

اگلا سوال ڈاکٹر ڈاکٹر کے لیے ہے۔

(ڈاکٹر محمد)

ہاں بہن

سوال: اسلام علیکم بھائی..... میرا نام عذر را ہے..... میں یہ پوچھنا چاہوں گی..... ایک کتاب جس میں سبزی خوری کا پرچار کیا گیا ہے..... اس کتاب کا مصنف گوپی ناتھ اگر وال ہے..... اس کتاب کے صفحہ نمبر 15 اور 16 پر مصنف کہتا ہے کہ: ”ایک گائے اپنی زندگی میں جتنا دودھ دیتی ہے اس سے یاک

وقت میں 90,000 افراد مستفید ہوتے ہیں اور اگر اس گائے کو گوشت خوری کے لیے ہلاک کر دیا جائے تو تھن 1000 افراد اس کے گوشت سے مستفید ہوتے ہیں ..... یہی کچھ بکری کے ساتھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے۔“

مصنف مزید کہتا ہے کہ:

”روزانہ سونے کا انڈہ دینے والی مرغی کو ہلاک کر دینا کہاں کی داشمندی ہے۔“

کیا آپ مصنف کے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں؟  
(ڈاکٹر ڈاکر)

اس بہن نے دوبارہ اسی کتاب سے سوال پوچھا ہے اور میں ایک وضاحت کرنا پسند کروں گا ..... مسرسل بچانے یہ کتب دی تھیں اور کہا تھا کہ آپ مزید کتب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا خط موجود ہے اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ..... اور یہ کتب مارکیٹ میں بھی کئی ایک مقامات پر دستیاب ہیں ..... لوگ خریدنے کے لیے آزاد ہیں۔ وغیرہ ..... اس لیے میں بتا رہا ہوں ..... میں لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں۔  
(سامیں)

آپ کتنی مرتبہ یہ سب کچھ دہرائیں گے ..... آپ بار بار یہ سب کچھ دہرا رہے ہیں۔  
(ڈاکٹر ڈاکر)

یہ درست ہے ..... اس بھائی نے پوچھا ہے کہ:  
”میں کیوں بار بار دہرا رہا ہوں؟“

کیونکہ تمام تر دلائل یہاں درج ہیں۔ یہ دلائل..... اگر یہاں درج نہ ہوتے... تو میں انھیں قطعاً نہ دہراتا۔

(مسٹر تریویدی)

براہ مہربانی..... میرا خیال ہے آپ کو پر سکون رہنا چاہیے..... جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے کہا..... جو کچھ مسٹر زاویری نے کہا..... درست کہا..... کتاب کسی اور کی لکھی ہوئی ہے..... کس کو اس کتاب کا دفاع کرنا چاہیے..... مسٹر زاویری اس کتاب کا دفاع نہیں کرنا چاہتے..... لہذا ہمیں اس کتاب کو نظر انداز کر دینا چاہیے..... بھول جانا چاہیے اور وہ سوالات پوچھنے چاہئیں جو کہ آج کے موضوع سے متعلق ہوں۔

(ڈاکٹر ڈاکر)

درست ہے..... اور میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں..... مسٹر زاویری نے کتابوں سے اقتباسات پیش کیے..... انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی..... انہوں نے وہ کتابیں پڑھیں جو گوشت خوروں کے خلاف بات کرتی ہیں۔ انہوں نے کتابیں پڑھیں اور حقائق پیش کر دیے..... میں ان کو تسلیم بھی کر سکتا ہوں اور ان کو غلط قرار بھی دے سکتا ہوں..... میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ:

”چونکہ میں نے یہ کتاب نہیں لکھی لہذا مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔“

کیونکہ یہ غیر منطقی جواب ہے۔ اگر آپ مجھے سبزی پر مشتمل غذا کے بارے میں کوئی سوال پوچھیں گے..... میں یا تو جواب میں کہوں گا کہ کتاب غلط ہے..... یا میں یہ کہوں گا کہ یہ غیر منطقی ہے..... یا یہ منطقی ہے..... آپ کیوں مشتعل ہوتے ہیں؟..... یہ کتاب سبزی خوری کا پرچار کرتی ہے..... اگر کوئی مجھے اسلام کے خلاف کوئی کتاب تھا مادے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا کہ یہ کتاب غلط ہے۔

(ڈاکٹر محمد)

معاف رہیں..... میں سامعین اور مقررین کے مابین مباحثہ کی بجات فراہم نہیں کروں گا..... سامعین محض سوالات کر سکتے ہیں اور مقرر محض جواب دے سکتے ہیں..... مباحثہ میں الجھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں..... میں ڈاکٹر ڈاکٹر اور مسٹر زاویری دوںوں کو یہ اجازت فراہم نہیں کروں گا کہ وہ سامعین کے ساتھ بحث مباحثہ میں الجھیں..... یہ سامعین کے ساتھ مباحثہ کے لیے مختص کیا گیا وقت نہیں ہے..... براہ مہربانی نوٹ فرمالیں..... آپ محض اپنے جوابات سے نواز سکتے ہیں۔  
 (ڈاکٹر ڈاکٹر)

میں اپنا جواب پیش کرنا شروع کر رہا ہوں۔ آپ بھی نائم نوٹ کرنا شروع کر لیں۔ اگر ہر بار مجھے مداخلت کا نشانہ بنایا گیا..... میں مکمل جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں چیزیں میں سے درخواست کروں گا کہ کسی ایک فرد کی طرف داری نہ کریں..... اگر وہ میرے جوابات میں مداخلت کرتے ہیں تو مجھے مزید وقت ملنا چاہیے اور اس بہن نے جو سوال انھیا ہے جس امر کی نشاندہی کی ہے وہ محض اسی کتاب میں موجود نہیں ہے بلکہ دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے..... انٹرنیٹ..... آپ انٹرنیٹ چلے جائیں..... وہی ولیل پیش کی جاتی ہے کہ:

”کیا دودھ سبزی خوری میں آتا ہے یا گوشت خوری میں آتا ہے؟“

یہ ایک بڑا سوال ہے..... سبزی خور ایسے بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ دودھ گوشت خوری کی ذیل میں آتا ہے..... یہ کتاب..... میں مقرر پر الزم نہیں دھر رہا..... یہ کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ دودھ گوشت خوری کی ذیل میں آتا ہے..... اگر ہم دودھ استعمال کریں گے..... بہت سی بیماریاں، دیگر سبزی خور فاؤنڈیشن کہتی ہیں کہ ہم سبز خور ہونے کے علاوہ دودھ خور بھی ہیں۔ ہم دودھ استعمال کریں گے..... اگرچہ

دودھ گوشت خوری کی ذیل میں آتا ہے یا سبزی خوری کی ذیل میں آتا ہے لیکن میرا  
سادہ سا سوال یہ ہے کہ:

”اگر آپ جانور کو تکلیف دینا گوار نہیں کرتے ..... جب تم  
جانور کا دودھ دھوتے ہو ..... جب تم جانور کا دودھ نکالتے ہو یہ  
عمل جانور کو سخت تکلیف دیتا ہے۔“

کیا آپ جانتے ہیں کہ:

”مصنوعی طریقے سے دودھ نکالنا جانوروں کے لیے باعث  
تکلیف ہوتا ہے؟“

آپ بچے کو دودھ پلانے والی کسی ماں سے پوچھیں۔ کبھی کبھار وہ کسی مسئلے  
مسئل کا شکار ہونے کی وجہ سے مصنوعی طریقے سے اپنا دودھ نکالتی ہے ..... یہ اس  
کے لیے ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔

لہذا جب آپ جانوروں سے دودھ نکلتے ہیں ..... یہ ایک تکلیف دہ امر  
ہے۔ جب آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ کچھ جانور انسانی خوراک کا حصہ  
ہیں ..... آپ کیسے ان جانوروں کا دودھ نکال سکتے ہیں؟ ..... مویشی اور گائے۔ یہ  
انہائی تکلیف دہ عمل ہے ..... یہ جانوروں کو لوٹنے کے متراff h ہے۔ اگر آپ کہتے  
ہیں کہ جانور انسانی خوراک کا حصہ نہیں ہیں اور اگر آپ اسی جانور کا دودھ استعمال  
کرتے ہیں تو آپ اس دودھ پر ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں جو اس جانور کے بچے  
کے لیے مخصوص ہے ..... بچھڑوں کے لیے اور وہ جو مثال دی گئی تھی کہ ایک گائے  
روزانہ اوسٹا دس کلو دودھ دیتی ہے ..... دوبارہ یہ کتاب غلط کہتی ہے ..... انشنیٹ میں  
یہی کہا جاتا ہے ..... 10 کلو دودھ فی دن ..... ایک ماہ میں 300 کلو ..... ایک برس  
میں تقریباً 3600 کلو ..... کیا آپ دودھ کا حساب کلو میں لگاتے ہیں؟ ..... کیا بیٹروں

میں نہیں لگاتے..... آپ کلو میں کیوں دودھ کا حساب لگاتے ہیں..... میں نہیں جانتا کیوں..... مصنف سے پوچھیں۔ اور مزید کہا گیا ہے کہ 3000 گلو دودھ..... اگر آپ اسے 6000 افراد کی غذا بنتے ہیں..... لہذا تمام تر زندگی کے دوران..... یہ 90,000 افراد کی ایک وقت کی غذا بنے گا..... اور اگر آپ گائے کو ہلاک کر دیتے ہیں..... تو یہ محض 1000 افراد کی غذا بنے گی..... کون بہتر ہے۔ 90,000 یا 1000؟..... آپ اس مرغی کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں جو روزانہ سونے کا اٹھا دیتی ہے؟..... یہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے۔ میں اس امر کے ساتھ متفق ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی گوالا (گجر) کبھی بھی دودھ دینے والی گائے کو قصاص کے حوالے نہیں کرتا..... کوئی بھی بوجڑ خانہ کبھی بھی دودھ دینے والی گائے خرید نہیں کرتا کیونکہ یہ گائے اس گائے سے بہتر زیادہ مہنگی ہوتی ہے جو اپنے دودھ دینے کی مدت پوری کر چکی ہوتی ہے۔ بمبئی میں ایک دودھ دینے والی گائے کی قیمت 25880 روپے ہے اور ایک گائے جو بوڑھی ہو چکی ہو اور اپنے دودھ دینے کا دورانیہ ختم کر چکی ہو اس کی قیمت تین تا پانچ ہزار ہے۔ لہذا..... ہم کیا کرتے ہیں..... ہم گوشت خور..... ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جانور کی دلیکھ بھال کرتے ہیں جب تک وہ دودھ دیتا رہتا ہے..... اور جب وہ دودھ دینا موقوف کر دیتا ہے..... بند کر دیتا ہے..... تب ہم اس کو ذبح کر لیتے ہیں..... اور ہم مرغی کے تمام اٹھے حاصل کر لیتے ہیں..... مرغی جب اٹھے دینا بند کر دیتی ہے تو ہم اس کا گوشت کھانے کے لیے اسے ذبح کر لیتے ہیں:

”سامان پ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔“

یعنی:

”ایک تیر سے دونثانے۔“

ہم زیادہ دانشمند ہیں۔

دوسری دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ:

”کچھ جانوروں کو آپ کھیتوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔“

آپ انھیں ہل چلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں..... بار برداری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

اگر آپ جانوروں سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں تو آپ جانوروں پر اتنا زیادہ بوجھ کیوں لادتے ہیں؟

زیید برآں ہندوستان کی شماریات میں یہ بتاتی ہے کہ:

”گائے، بیل وغیرہ کی کل تعداد کا حصہ ایک چوتھائی حصہ کام

کاج سرانجام دینے کے قابل ہے اور بقایا تین چوتھائی حصہ کام

کاج سرانجام دینے سے عاری ہے۔“

اس کا مطلب ہے یا تو وہ جانور بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے دودھ دینے کی

عمر گزر چکی ہے یا پھر وہ نر ہیں مادہ نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اس تعداد کا کیا

کریں گے؟ گائے، بیل، بکری وغیرہ..... جو دودھ نہیں دیتیں اور آپ پر مالی بوجھ ہیں؟

اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ ان کی خوراک وغیرہ کا خرچہ مفت میں

برداشت کریں۔ ایک عام گائے یا بیل کی خوراک پر سالانہ 18000 روپے کا خرچہ

اثبتا ہے..... یہ خرچہ شماریات اور اعداد و شمار میں ظاہر کیا گیا ہے..... یہ ان کے مہیا

کروہ اعداد و شمار ہیں..... میرے بنائے گئے اعداد و شمار نہیں ہیں..... 18000 روپے

سالانہ..... لہذا دودھ کا دورانیہ ختم ہونے کے بعد جانور مزید 4 یا 5 برس تک زندہ رہے

سکتا ہے..... کون سا کسان ایسا ہوگا جو ہر سال لاکھوں جانوروں کا مالی بوجھ برداشت

کرے..... 18000 روپے فی جانور سالانہ؟

اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ انھیں جنگل میں کھلا چھوڑ دیا جائے..... درندے  
انھیں ہلاک کر ڈالیں گے۔

آخری حل ایک بہترین حل ہے کہ:

”جب تک جانور دودھ دینا رہے اس کے دودھ سے مستفید ہوا  
جائے..... جب اس کے دودھ دینے کا دور بیت جائے تو  
اسے چھڑوں کے حوالے کر دیا جائے۔“

اس طریقے سے کسان فائدے میں رہتے ہیں..... کسان کو رقم ہاتھ لگتی  
ہے..... حتیٰ کہ جانور بھی انسانوں کو مستفید کرتا ہے..... انسان اس کے گوشت سے  
لف انداز ہوتے ہیں..... اس کے علاوہ ان کی کھالوں سے چھڑہ بتتا ہے اور ان کی  
ہڈیاں بھی استعمال میں لاٹی جاتی ہیں۔

میرا خیال ہے اس سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔

(ڈاکٹر محمد)

اگلا سوال مشرزادیری کے لیے ہے۔

سوال: کستور چند جیں کے مطابق ..... 22 دینیں تر تھا انکر ..... الاس نہی ..... جو کہ  
نہی ناتھ کے نام سے مشہور ہے..... اس کی شادی کے موقع پر جانوروں اور پرندوں کا  
گوشت پیش کیا گیا تھا..... اور شاسترہ کے مطابق دو لہن اور دہن دونوں جیں تھے۔

ایک اور واقعہ کا حوالہ پیش کیا گیا ہے کہ ..... ”چیدیا (Chenya) ..... ایک  
جیں شراویکا ..... جو کہ بھم شان شریونک کی بیوی تھی ..... مہاوری کا ایک ساتھی ..... وہ  
حاملہ تھی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے خاوند کا دل کھائے ..... بھم شان کے بڑے  
بیٹے ابے کمار نے اس کی بجائے اسے ایک مردہ جانور کا گوشت فراہم کر دیا اور چیدیا  
نے اسے اپنے خاوند کا دل سمجھتے ہوئے کھا لیا..... میں نہیں جانتا کہ اس آرٹیکل میں

کس حد تک حقیقت پائی جاتی ہے اور جو کچھ کستور چند نے کہا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے..... اس کی وضاحت کیا ہے ..... براہ مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں ..... میں ”ری کاروان سیریز“ دسمبر 1981ء کے آرٹیکل کا حوالہ دے رہی ہوں۔  
 (مسٹر زاویری)

شکریہ بہن ..... سب سے پہلے میں انتظامیہ سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ مخفی ان سوالات کو پوچھنے کی اجازت فراہم کریں جن کا تعلق میری گفتگو سے ہے ..... میرے خطاب سے ہے ..... کسی کتاب یا کسی دیگر حوالے سے سوال پوچھنے کی اجازت فراہم نہ کریں ..... ایسے سوالات کے لیے میں جواب دہ نہیں ہوں ..... لیکن چونکہ میں ایک حقیقی جین ہوں ..... اس لیے جین تاریخ کے بارے میں یقیناً جانتا ہوں ..... نیسی ناتھ تر تھا انکر کے بارے میں ..... ہاں یہ حقیقت ہے ..... یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ پر اپنی گذہ کیا کہ جانوروں کو ہلاک کرنا ..... یہی وجہ ہے کہ اس نے ترک دنیا کیا ..... کہ ”میری شادی کی خاطر کیا آپ ان تمام تم مخصوص مخلوق کی قربانی دینا چاہتے ہیں؟“

نہیں مجھے ایسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔“

اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ”جین منی“ بن گیا اور بالآخر ایک تر تھا انکر بن گیا ..... اور یہی وجہ ہے کہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ”تمام تر جین تر تھا انکروں نے گوشت خوری کی سختی کے ساتھ مخالفت کی ہے۔“

شکریہ ..... اور براہ مہربانی اپنے سوالات مخفی میرے خطاب تک محدود رکھیں ..... یہ کتب نیک نیتی کے جذبے کے تحت دی گئی تھیں تاکہ آپ ہمارا کتنے نظر سمجھ سکیں ..... ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کتب جن افراد میں تقسیم کی گئی تھیں وہ انہی

کتب کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں..... میر انہیں خیال کر ان کا یہ عمل درآمد  
بنی بر انصاف ہے..... آپ مجھ سے میرے خطاب کی حدود میں واقع کوئی بھی سوال  
پوچھ سکتے ہیں..... میں ایسے سوالات کا جواب دے کر راحت حسوس کروں گا۔  
(ڈاکٹر محمد)

آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے خواہ وہ  
خطاب کی حدود کے اندر واقع ہو یا باہر واقع ہو..... اسے محض موضوع سے متعلق  
ہوتا چاہے۔  
(مسٹر زادیری)

”ٹھیک ہے..... درست ہے..... مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔“  
دوسرانکتہ یہ ہے کہ میں مسٹر کو آرڈی نیٹر پر یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ مسٹر  
والی۔ پی تزویدی اور میں..... ہمیں ذیگر اجلاس میں بھی شرکت کرنی ہے..... لہذا ہم  
پانچ منٹ کے اندر اندر فراغت پانا پسند کریں گے۔  
(ڈاکٹر محمد)

میں کیا کہہ سکتا ہوں..... دیکھیں دونوں مقررین کو خطاب کے لیے جو وقت  
دیا گیا تھا وہ پچاس منٹ فی مقرر تھا..... اس کے بعد پندرہ پندرہ منٹ فی مقرر  
جوبابات کے لیے مقرر تھا..... اس کے بعد پچاس منٹ کے دورانیے پر محیط سوال  
جواب کا اجلاس ہے۔ اگر کوئی بھی مقرر سوال جواب کے لیے مخصوص مکمل دورانیے تک  
ساتھ نہیں دے سکتا..... اگر اسے کوئی ایم جنی ہے..... میں اسے رخصت ہونے کی  
اجازت فراہم کر سکتا ہوں لیکن میں سوال جواب کا اجلاس جاری رکھوں گا..... یہ  
اجلاس اپنا پچاس منٹ کا دورانیہ پورا کرے گا..... کیونکہ مجھے پروگرام کی جو فہرست  
فراہم کی گئی ہے مجھے اس پر اپنے عمل درآمد کو ممکن بنانا ہے..... مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے

کہ اپنی گفتگو یا جواب کے دوران ڈاکٹر ذاکر کسی دوسرے مذہب کے بارے میں بات نہیں کر سکتے..... سامعین بھی انھیں ایسا کرنے پر مجبور نہ کریں..... میں آپ پر واضح کر دوں کہ مجھے انھیں زبردستی مجبور کرنا ہے کہ آپ کسی اور چیز کو زیر بحث نہیں لاسکتے..... لیکن میں انھیں آمادہ کر چکا ہوں کیونکہ انھیں درخواست کی گئی تھی اور انھوں نے اس درخواست کو شرف قبولیت بخشنا ہے..... اب دونوں مقررین جس امر پر متفق ہوئے ہیں مجھے اسی امر کی پیروی کرنی ہے..... جس امر پر دونوں مقررین متفق نہ ہوں مجھے بھی اس امر سے دست بردار ہونا ہے..... مجھے یہ واضح کرنے دیں کہ..... ہم نے پچاس منٹ کے لیے کہا تھا..... اور ہم پچاس منٹ ہی فراہم کریں گے..... لیکن اگر ایک مقرر جلد رخصت ہونا چاہتا ہے..... کسی نہ کسی مجبوری کی بنا پر..... تو وہ اپنی من مرضی کرنے میں آزاد ہے..... میں اس کی مجبوری کو تسلیم کروں گا لیکن ہم سوال جواب کا اجلاس پچاس منٹ تک ہی جاری رکھیں گے..... میں نے وقت نوت کر رکھا ہے..... 12:45 پر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا لہذا یہ سلسلہ تقریباً 1:30 تک جاری رہے گا..... لہذا میرا خیال ہے کہ میں نے ہر ممکن وضاحت کر دی ہے۔

اگلا سوال ڈاکٹر ذاکر کے لیے ہے۔

**سوال: السلام علیکم ڈاکٹر بھائی**

میرا نام خان عبدالسمیع ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ:

”بزری خوروں نے کتابچے تقسیم کیے ہیں جن میں مختلف غذاوں کی توانائی کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ باور کروایا گیا ہے کہ بزری خوری سے زیادہ پروٹئن اور فولاد کا حصول ممکن ہوتا ہے بہ نسبت گوشت خوری کے..... لہذا وہ کہتے ہیں بزری خوری یہ نسبت گوشت خوری زیادہ غذا ایسیت کی حامل ہوتی ہے۔“

آپ براہ مہربانی اس پر تبصرہ فرمائیں..... شکریہ  
(ڈاکٹر ذاکر)

اس بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں اس سوال کا جواب دینا بھی پسند کروں گا جو فاضل مقرر نے انھیا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ کتابچے کس نے تقسیم کیے تھے..... میرے پاس تحریر موجود ہے..... یہ رُشْحہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ہیں..... انھوں نے یہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن (آئی آر ایف) کو یہ کہتے ہوئے دیے تھے کہ:  
”ہمیں اس قسم کا مواد کثیر تعداد میں آپ کو فراہم کرتے ہوئے خوشی ہوگی..... اگر آپ یہ پسند کریں کہ اس مواد کو ممبئی کے مسلمان بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔“

اور یہ مواد ہماری فاؤنڈیشن پہنچا دیا گیا..... ہم نے کوئی کارروائی نہ کی..... کہ کسی کارروائی کی ضرورت ہی محسوس نہ کی گئی تھی..... لیکن جب رُشْحہ فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ درخواست موصول ہوئی کہ:

”کیا آپ ان کو تقسیم کرنے پر آمادہ ہیں؟“

آپ جانتے ہیں یہ سائنسی موضوع نہیں ہے..... یہ ایک زندہ حقیقت ہے..... اس نے کہا کہ:

”ہاں..... ہم اس پر مباحثہ سرانجام دیں گے۔“

میں نے کہا کہ:

”بہت بہتر۔“

الہذا میں یہاں موجود ہوں اور جواب دے رہا ہوں۔ لوگ کیوں مشتعل ہوتے ہیں؟ آپ میرے سامنے کسی بھی کتاب سے حوالہ پیش کر سکتے ہیں..... مگر یہ حوالہ آج کے موضوع کے دائرہ کار کے اندر ہونا چاہیے..... میں انشاء اللہ اس کا

جواب پیش کروں گا..... میر انہیں خیال کر میں یہ کہوں گا کہ میں نہیں جانتا..... اگر میں جانتا ہوں گا تو میں صاف صاف کہوں گا کہ میں جانتا ہوں ..... میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں ..... جہاں تک غذاوں کی توانائی کا تعلق ہے یہ کہا گیا ہے کہ سبزی خوری کی بدولت گوشت خوری سے زیادہ پروٹین حاصل ہوتی ہے اور مسٹر راشی بھائی زاویری نے اپنے خطاب کے دوران بھی کہا ہے کہ سبزی خوری کی بدولت زیادہ پروٹین حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان میں محض تین لازمی امینو ایڈ ہوتے ہیں آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تین نہیں ہوتے بلکہ آٹھ ہوتے ہیں ..... اس میں پانچ کی کمی پائی جاتی ہے۔ یہ آٹھ لازمی امینو ایڈ ہیں جو جسم بذات خود مہیا نہیں کرتا بلکہ جسم بذات خود مہیا کرتا ہے۔ یہ لازمی امینو ایڈ غذائی ذرائع سے حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ حیوانی غذاوں کی پروٹین ..... حیاتیاتی طور پر مکمل ہوتی ہے ..... وہ اونچے درجے کی پروٹین کہلاتی ہے کیونکہ اس میں تمام تر آٹھ امینو ایڈ شامل ہوتے ہیں ..... یہ حقائق پر مشتمل جواب ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔

سبزی خوری سے حاصل کی گئی پروٹین نامکمل پروٹین ہے ..... یہ کم معیار کی حاصل ہوتی ہے ..... حیوانی پروٹین اونچے معیار کی حاصل ہوتی ہے اور مکمل پروٹین ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ تجزیہ کریں ..... حتیٰ کہ جوفولاد آپ غذا کی وساطت سے حاصل کرتے ہیں وہ دو اقسام سے متعلق ہوتا ہے ..... غیر ہم آرزن ..... ہم آرزن ..... ہم آرزن بے آسانی جسم میں جذب ہو جاتا ہے جبکہ غیر ہم آرزن با آسانی جسم میں جذب نہیں ہوتا۔ حیوانی غذاوں میں ہم آرزن اور غیر ہم آرزن دونوں پائے جاتے ہیں جبکہ سبزی پر مشتمل غذاوں میں بہت کم مقدار میں ہم آرزن پایا جاتا ہے ..... لہذا وہ جسم میں جذب نہیں ہوتا ..... لہذا سبزی خوروں میں فولاد کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔

لہذا اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”گوشت پر مشتمل غذا میں زیادہ غذائیت کی حامل ہوتی ہیں۔“  
 یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے..... یہ کچھ نہیں ہے مساوائے لوگوں کو  
 گمراہ کرنے کے..... میں سادہ انگریزی میں اسے ”فراؤ“ سے تعبیر کروں گا..... یہ فراڈ  
 کون کر رہا ہے..... سبزی خوروں کی سوسائٹی ..... یہ سوسائٹی لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے  
 اور ہر ایک مذہب میں فراڈ کرنا منوع ہے..... خواہ وہ مذہب بڑا ہو یا چھوٹا.....  
 مذہب خواہ بڑا ہو یا چھوٹا..... فراڈ منوع ہے۔ لہذا میں آپ سے ایک سوال کرنا  
 چاہوں گا کہ:

”کیا آپ دس کرنی نوٹ لینا پسند کریں گے..... دس کرنی نوٹ  
 میں روپے فی نوٹ..... یا پانچ صدر روپے کا ایک نوٹ لینا پسند  
 کریں گے..... صاف ظاہر ہے کہ آپ دوسری پیش کش سے  
 فائدہ اٹھائیں گے..... یعنی پانچ صدر روپے کا ایک کرنی نوٹ لینا  
 پسند کریں گے۔“

میرا خیال ہے اس سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔  
 (ڈاکٹر محمد)

اگلا سوال مسٹر زاویری کے لیے ہے۔

سوال: اسلام علیکم

میرا نام جاوید شیخ ہے..... میرا سوال راشی بھائی زاویری سے ہے.....  
 زاویری صاحب آپ..... آپ نے خطاب کے دوران یہ فرمایا تھا کہ:  
 ”گوشت خوری کی بدولت گوشت کے توسط سے انسانوں میں  
 مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں..... وائرس اور بیکٹیریا سے پھیلنے والی  
 بیماریاں..... لہذا آپ نباتات سے بھی بیماریاں حاصل کرتے

ہیں..... سبزی خوری سے بھی جراثیم حاصل کرتے ہیں؟“

آپ نے ڈین آرنس اور دیپک چوپڑا کے حوالے بھی پیش کیے اور ان ڈاکٹروں کی سفارشات بھی پیش کیں۔ اگر آپ ڈاکٹروں کی سفارشات اور طبی ناہرین کی سفارشات پر یقین رکھیں..... تراویدی سرنے بھی یہ ذکر کیا ہے..... اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں..... میں محض ایک سادہ مثال پیش کروں گا کہ:

”جب میں بچہ تھا..... ڈاکٹروں نے ..... جبکہ میں بخار میں بتلا تھا..... ڈاکٹروں نے مجھے خبردار کیا کہ ٹھنڈے پانی سے غسل نہیں کرنا..... لیکن آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں ..... جب کبھی مجھے بخار ہوتا ہے ..... وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرو ..... لہذا اگر آپ حوالہ جات پر یقین کر رہے ہیں ..... اعداد و شمار اور طبی چیزوں پر یقین کر رہے ہیں تو براہ مہربانی اعداد و شمار پیش کریں ..... ڈاکٹر ڈاکٹر ناٹک نے سروے آف امریکہ کا حوالہ دیا تھا ..... یہ حوالہ دل کی بیماری کے ضمن میں پیش کیا گیا تھا جسے ڈاکٹری اصطلاح میں کارونزی (Coronary) کہتے ہیں۔  
کیا آپ کے پاس اس بیماری کے بارے میں ہندوستانی اعداد و شمار موجود ہیں ..... کیا یہ بیماری سبزی خوروں کو لاحق ہوتی ہے یا گوشت خوروں کو لاحق ہوتی ہے؟“

(ڈاکٹر محمد)

میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تمام حضرات سوالات مختصر طور پر کریں۔

(مسٹر زاویری)

آپ کا سوال اتنا لمبا ہے کہ یادداشت سے نکل جاتا ہے۔

(سوال کنندہ)

آخری حصہ سوال ہے۔

(ڈاکٹر محمد)

”کاروں زی دل کی بیماری..... انہوں نے اس بارے میں پوچھا ہے۔“

(مسٹر زاویری)

دیکھیں..... جہاں تک دل کی بیماری کا تعلق ہے..... جی ہاں  
نباتات بھی..... اگر آپ ناقص نباتات..... گلے سڑے نباتات استعمال کریں  
گے..... میرا مطلب ہے نباتاتی خوراک..... ناقص یا گلے سڑے پھل..... لازمی طور  
پر یہ جراشیم پیدا کرنے کا باعث ثابت ہوں گے..... وہ خطرناک ثابت ہوں گے.....  
ایک دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ:

”حیواناتی غذا میں زیادہ پروٹین..... زیادہ کولیسترول اور  
روغنیات موجود ہوتے ہیں۔“

لہذا جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں..... یہ گوشت خوری کو ممنوع  
قرار دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔

جہاں تک اعداد و شمار کا تعلق ہے..... میرے پاس اس سے متعلقہ کتاب  
موجود ہے..... لیکن وقت کی کمی ہے..... اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے  
شماریات کے دلائل پیش کیے جاسکیں..... میرے پاس مکمل اعداد و شمار موجود ہیں کہ  
بہت سے لوگ دل کی بیماری میں گرفتار ہیں..... اور یہ تمام کے تمام گوشت خور  
ہیں..... اگر تمام کے تمام گوشت خور نہیں بھی ہیں تو ان میں زیادہ تعداد گوشت خوروں  
کی ہے..... لیکن اس لمحے میں آپ کو اعداد و شمار پیش نہیں کر سکتا..... اگرچہ یہ میرے  
پاس موجود ہیں میں مابعد آپ کو مہیا کر دوں گا۔

(ڈاکٹر محمد)

اگلے سوال ڈاکٹر ذاکر کے لیے ہے۔

سوال: اسلام علیکم بھائی

بھائی میرا نام صفیہ ہے..... میں نو مسلم ہوں..... میرا سوال یہ ہے کہ:  
 ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے..... ”گوشت خوری یا سبزی  
 خوری..... انتخاب آپ کا“..... اس کا مصنف گوپی ناتھ اگروال  
 ہے..... اس کتاب میں بڑے مذاہب جن میں ہندو مت اور  
 عیسائیت بھی شامل ہے کے حوالے سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ  
 گوشت خوری منوع ہے..... ان حالات میں آپ کیسے فرماتے  
 ہیں کہ اس کی اجازت ہے؟“

(ڈاکٹر ذاکر)

اس بہن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ:

”ای کتاب میں بڑے مذاہب مثلاً عیسائیت اور ہندو مت کے  
 حوالے سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان مذاہب میں گوشت خوری  
 منوع ہے۔ لہذا میں نے یہ کیسے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی بڑے  
 مذہب نے گوشت خوری کو منوع قرار نہیں دیا؟“

میں نے وضاحت کی تھی کہ اسلامی نقطہ نظر کے تحت..... یہ غلط حوالہ  
 ہے..... غلط فہمی پر مبنی ہے..... میں اس امر سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ ایسے حوالے بھی  
 ہیں کہ کبھی کبھار گوشت خوری کی ممانعت بھی ہے حتیٰ کہ اسلام میں بھی..... مثال کے  
 طور پر جس آیت کا حوالہ میں نے پیش کیا تھا..... سورہ مائدہ..... سورۃ نمبر 5..... آیت  
 نمبر 1 جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

”لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔“

اگر آپ ماہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں تو سحر سے لے کر افطار تک نہ ہی سبزی پر مشتمل خوراک کھاؤ اور نہ گوشت پر مشتمل خوراک کھاؤ..... دونوں طرح کی غذا میں منوع ہیں..... محض سحر سے لے کر افطار تک منوع ہیں۔ لہذا مذہبی کتب میں حوالے موجود ہیں..... کہ کسی مخصوص وقت روزے کے دوران گوشت پر مشتمل غذا استعمال نہ کرو..... اور چونکہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے لہذا میں جواب پیش کر سکتا ہوں..... وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بائیبل میں یہ درج ہے کہ:

”آپ مردار نہیں کھا سکتے۔“

اور بریکٹوں کے اندر لکھا ہوا ہے..... ”گوشت“..... وہاں پر ایسا کچھ درج نہیں ہے..... وہ کیا حوالہ پیش کر رہے ہیں..... اس حوالے کا اتنہ پتہ نہیں دیا گیا..... میں تقابلی مذہب کا طالب علم ہوں..... میں غذاوں کے بارے میں بھی بخوبی گفتگو کر سکتا ہوں۔ اگرچہ انھوں نے حوالے کا اتنہ پتہ نہیں دیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بک آف لیویٹ کس (Book of leveticus) سورۃ نمبر 17..... آیت نمبر 15 اور بک آف ڈیوترونومی (Book of deuteronomy) سورۃ نمبر 14..... آیت نمبر 21 کا حوالہ دے رہے ہیں..... جس کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے کہ:

”مردار کا گوشت منوع ہے۔“

مردار کا گوشت منوع ہے..... تمام تر گوشت منوع نہیں ہے محض مردار کا گوشت منوع ہے..... اور وہ کہتے ہیں ”مردار خوراک“ اور بریکٹ کے اندر لکھا ہے ”گوشت۔“

حتیٰ کہ قرآن پاک سورۃ البقرہ..... سورۃ نمبر 2..... آیت نمبر 173

سورۃ مائدہ..... سورۃ نمبر 5..... آیت نمبر 3

سورہ انعام ..... سورہ نمبر 6 ..... آیت نمبر 145

سورہ نحل ..... سورہ نمبر 16 ..... آیت نمبر 115

میں فرماتا ہے کہ:

”اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت  
اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔“

اگر آپ ہندوؤں کی مذہبی کتب کا مطالعہ کریں ..... اگر آپ منو کے قوانین (Laws of maun) ..... باب نمبر 5 ..... آیت نمبر 30 کا مطالعہ کریں ..... یہ واضح طور پر درج ہے کہ:

”کھانے والا ہر جاندار مخلوق کھا سکتا ہے ..... اگرچہ وہ روزانہ ہی کیوں نہ کھائے ..... ہمارے خالق نے کچھ مخلوق کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے اور کچھ مخلوق کو غذا بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔“  
منو کے قوانین .....  
(ڈاکٹر محمد)

بھائی ..... بھائی ..... اب ..... براہ مہربانی ..... براہ مہربانی

(ڈاکٹر ڈاکر)

میں ہمیشہ تیار ہوں ..... میں ہمیشہ تیار ہوں ..... جب میں مذہبی کتب کا حوالہ پیش کرتا ہوں ..... یہ کتب میری میز پر موجود نہیں ہوتیں بلکہ یہ میرے اندر جذب ہیں ..... میں اس وقت تک یہ حوالہ پیش نہیں کرتا جب تک مجھے ایسا کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے ..... اب وہ مجھے جواب دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں جواب پیش کر رہا ہوں ..... یہ مبانی کے قوانین میں شامل ہے ..... میں نے ابھی اپنا جواب مکمل نہیں کیا ..... مجھے مزید پانچ منٹ بولنا ہے۔

(ڈاکٹر محمد)

ہم یہ درخواست کریں گے کہ یہ درمیان میں خلل واقع نہ کریں۔

(ڈاکٹر ذاکر)

براح مہربانی خلل واقع نہ کریں..... دیکھیں کون خلل اندازی کر رہا ہے.....  
جبکہ میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس مزید بیس سینٹ موجود ہیں..... آپ جانتے  
ہیں کہ اس طرح وقت ضائع ہوتا ہے..... آپ جانتے ہیں..... اور جب میرا وقت  
اختتام کو پہنچ جائے گا میں خود ہی اسپیکر بند کر دوں گا۔

(ڈاکٹر ذاکر)

نہیں..... لیکن اگر کوئی خلل اندازی واقع کرتا ہے..... مجھے خلل کا شکار کرتا  
ہے..... میں مزید وقت لوں گا۔

(ڈاکٹر محمد)

اچھا..... صحیک ہے..... ہم مزید وقت دیں گے..... آپ 30 سینٹ کے اندر  
اندر اپنا جواب کمل کریں۔

(ڈاکٹر ذاکر)

منوسمرتی باب نمبر 5..... آیت نمبر 35 میں درج ہے کہ:  
”آپ گوشت کھا سکتے ہیں۔“

رُگ وید..... کتاب نمبر 10..... باب نمبر 16..... آیت نمبر 10 میں درج ہے کہ:  
”آپ گوشت کھا سکتے ہیں۔“

رُگ وید..... کتاب نمبر 10..... آیت نمبر 85..... سورۃ نمبر 13

رُگ وید..... کتاب نمبر 10..... آیت نمبر 86..... سورۃ نمبر 13

بھی وہی کچھ کہتی ہے کہ:

”آپ گوشت کھا سکتے ہیں۔“

(تالیاں)

سوال: میرا نام گلفام ہے..... میرا سوال مشرزاویری سے ہے۔ جناب اپنے خطاب میں آپ نے فرمایا تھا کہ:

”جیں منی بنا تات کو ہلاک نہیں کرتے۔ لہذا کیا وہ دوسروں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بنا تات ہلاک کریں یا یہ کہ جب وہ اپنے منہ پر ماسک پہننے ہیں..... وہ جراشیوں کو ہلاک نہیں کر رہے ہوتے اور دیگر لوگ جراشیوں کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے چہروں پر ماسک نہیں پہننے ہوتے؟ یہ کیا ہے؟ براہ مہربانی وضاحت فرمائیں۔“

(مشرزاویری)

بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے..... مجھے حقیقتاً از حد خوشی ہوئی ہے..... آپ کا سوال تمام سوالوں میں اول نمبر ہے..... کیونکہ جیں مت میں یہ کہا گیا ہے کہ ”تمھیں کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے..... آپ کو کسی کو یہ اجازت بھی فراہم نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی کو ہلاک کرے اور اگر کوئی کسی کو ہلاک کرتا ہے تو آپ کو اس کے اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔“

لہذا یہ تین چیزیں موجود ہیں۔ لہذا اگر کسی ”جیں منی“، کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کھانا اس کے لیے تیار کیا گیا ہے تو وہ اس کھانے کو نہیں کھائے گا..... لہذا یہ ”جیں منی“ کا قانون / اصول ہے۔ جب ..... جب وہ ہمارے پاس سوال لے کر آتے ہیں یعنی کچھ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بہت واضح انداز میں پوچھتے

ہیں..... ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھیں گے کہ:  
”کیا آپ نے ہمارے کھانے کے لیے کچھ تیار رکھا ہوا ہے؟“

ہم بڑی ایمانداری کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ:  
”ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے..... ہم نے اپنے  
لیے کھانا تیار کر رکھا ہے۔“

فرض کریں کہ:

”ہم نے چار چھاتیاں پکائی ہوئی ہیں..... وہ ح人性 ایک چھاتی  
لے گا..... اور بقایا تمیں ہمارے لیے چھوڑ دے گا۔“  
”جین منی“ میں مانگنے کا یہ طریقہ راجح ہے..... وہ کسی کو ہلاک نہیں کرے  
گا..... وہ دوسروں کو بھی یہ اجازت فراہم نہیں کرے گا کہ وہ کسی کو ہلاک کریں..... وہ  
ہلاکت کے لیے پر اپیگنڈہ نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ وہ کھانا بھی نہیں کھائے گا اگر اس کو یہ  
علم ہو جائے کہ یہ کھانا ”جین منی“ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

مجھے خوشی ہے کہ مجھے یہ موقع میر آیا ہے کہ میں ان روشن خیال اور اعلیٰ  
دماغ سامعین کے سامنے ”جین منی“ کے نقطہ نظر کی وضاحت پیش کر سکوں ..... بہت  
بہت شکریہ۔

اور اب میں جناب کو آرڈی نیٹر سے درخواست کروں گا کہ مسٹر تریویدی اور  
مجھے..... اگرچہ یہ تقریب بہت عدگی کے ساتھ جاری و ساری ہے کہ ہمارے یہ خواہش  
ہے کہ ہم مزید کئی ایک گھنٹوں تک اس تقریب میں شمولیت کریں ..... لیکن مجھے افسوس  
ہے..... کہ وقت کی قلت در پیش ہے۔  
(ڈاکٹر محمد)

آخری دو سوال..... ہم آخری دو سوالات کی اجازت فراہم کریں گے.....

محض پانچ منٹ بقايا ہیں۔

(مسٹر زاویری)

”میرا نہیں خیال کہ.....“

(مسٹر تریویدی)

”میرا خیال ہے کہ ہم نے مبڑی خوری اور گوشت خوری کے  
بارے میں اس قدر باتیں کی ہیں کہ ہم سب بھوک محسوس کر  
رہے ہیں..... میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ پیٹ پوجا کے لیے جانا  
چاہیے..... لہذا آخری دو سوالات اور اس کے بعد وقفہ.....“

(ڈاکٹر محمد)

جیسا کہ مسٹر تریویدی نے کہا ہے کہ:

”ہم مائک کے توسط سے محض دو سوالات کی اجازت فراہم  
کریں گے..... کیا اگلا سوال ڈاکٹر ڈاکٹر کے لیے ہو گا؟“

(ڈاکٹر محمد)

جی ہاں..... اچھا..... آپ سے درخواست ہے مسٹر..... آپ کے لیے.....  
آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو آپ کو قطار میں آنا چاہیے..... میرا خیال سے  
میں درست کہہ رہا ہوں..... آپ جانتے ہیں.....

سوال: السلام علیکم

میری درخواست یہ ہے ڈاکٹر بھائی کہ:

”کیا گوشت پر مشتمل غذائیں ناقص غذائیں ہوتی ہیں؟“

(ڈاکٹر محمد)

اچھا..... دیگر مقررین کی جانب سے درخواست ہے..... ہم کیا کریں.....

میں کیا کروں ..... دیکھیں اس جانب سے درخواست موصول ہوئی ہے ..... کہ محض ایک یا دو افراد کو ڈاکٹر ذاکر سے سوال پوچھنے کی اجازت فراہم کی جائے ..... میں کیا کہہ سکتا ہوں ..... دوسرے دو مقررین سے سوال پوچھنے چاہئیں ..... کیونکہ انہوں (مسٹر تریویدی اور مسٹر زاویری) نے رخصت ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں موقع فراہم کروں گا ..... کیونکہ میں آپ کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کر سکتا ..... دونوں افراد ..... وہ جانا چاہتے ہیں ..... لہذا میں نے انھیں جانے کا موقع فراہم کر دیا ہے ..... وہ چاہتے ہیں کہ وہ دو افراد ان سے سوال پوچھیں ..... مسٹر زاویری وہ کون سے دو افراد ہیں؟ مسٹر بید ..... ہم دونوں کو موقع دیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے ..... دیگر دو افراد کو موقع فراہم کیا جائے گا کیونکہ میں ان کے ساتھ نا انصافی کرنا نہیں چاہتا ..... میرا خیال ہے کہ سامعین پروگرام جاری رکھنے میں اگلے دس منٹ تک ہمارا ساتھ دیں گے ..... اس کے بعد مسٹر تریویدی اور مسٹر زاویری رخصت ہو جائیں گے ..... لہذا ان لوگوں کو سوال پوچھنے دیں ..... اچھا ..... ہم محض ان کو اجازت فراہم کریں گے۔

(سامعین)

نہیں ..... نہیں ..... نہیں ..... سر وہ جا رہے ہیں ..... ہمیں ان سے دو سوالات پوچھنے دیں اور مابعد انھیں بے شک جانے دیں۔

(ڈاکٹر محمد)

ان دو افراد کو سوال پوچھنے دیں جن کی نشاندہی مسٹر زاویری نے کی ہے ..... مسٹر بید ..... مسٹر بید کون صاحب ہیں؟ اچھا ..... ایک مسٹر بید اور دیگر دو اچھا ہم انھیں دو سوالات پوچھنے کی اجازت فراہم کریں گے۔

سوال: ڈاکٹر حسین سے

(ڈاکٹر محمد)

معاف رکھیں مسٹر زاویری ..... اچھا ..... نہیک ہے ..... اب سوال ..... ایک وہ پوچھے گا ..... ایک تم پوچھو گے ..... اس کے بعد جب آپ کے سوالات کے جواب مکمل ہو جائیں گے تو میں مسٹر زاویری کو جانے کی اجازت فراہم کروں گا ..... اور ایک منٹ (سالمن) (سالمن)

ڈاکٹر صاحب

(ڈاکٹر محمد)

جب وہ اپنے دو سوال ختم کر چکیں گے ..... آپ کو ختم کرنا ہوگا ..... آپ دونوں کو ..... میں انھیں جانے کی اجازت فراہم کروں گا۔ تب دیگر دو جن کا موقع ضائع ہو گیا ہے ان کو اجازت دی جائے گی ..... اس کے بعد وہ جوان دو افراد کی وجہ سے موقع سے محروم ہوئے ہیں ان کو موقع عطا کیا جائے گا ..... اس کے بعد میں مزید اجازت فراہم نہیں کروں گا ..... براہ مہربانی ..... ہم نے پروگرام کو مکمل کرنا ہے۔

جی جتاب

سوال: ڈاکٹر صاحب نمیتے ..... اسلام علیکم

(ڈاکٹر محمد)

مختصر اور بامقصود

سوال: ڈاکٹر صاحب ..... ڈاکٹر صاحب ..... ڈاکٹر صاحب

(ڈاکٹر محمد)

مختصر ..... قتاب ..... مختصر اور بامقصود

سوال: میرا سوال یہ ہے ..... میں ایک فلم دیکھنے گیا تھا ..... ”خانہ خدا“ وہاں پر تین روز کا اجتماع تھا۔ لوگ ..... حاجی صاحب جو تھے ..... وہ صندل وڈ پہنے ہوئے تھے اور

تب اس کے علاوہ وہ گوشت پر مشتمل خواراک استعمال نہیں کر رہے تھے..... بال بھی نہیں کٹوارہ ہے تھے..... کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ مکمل ”برہما چاری اور سنیاسی“..... جب فلم ختم ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا..... بھائی یہ کیا ہے؟ تم دنوں کا مکمل اجتماع..... ”سنیاسی برہما چاری؟“ انھوں نے جواب دیا وہ یہ تھا..... اس نے کہا کہ ”خانہ خدا“ تھامیں نے کہا..... مسلمان بھائیو کیا سارا سنوار خانہ خدا نہیں ہے؟

(ڈاکٹر محمد)

بھائی صاحب..... آپ کا سوال ذرا..... بھائی صاحب..... بھائی صاحب..... ہمارے چیف گیسٹ کو اور ہمارے مقرر کو ذرا جانا ہے..... اپنا سوال مختصر طور پر پیش کریں۔

سوال: ”سارا سنوار خانہ خدا ہے“..... براہ مہربانی مجھے جواب دیں کہ وہ دو وہ تین دن..... کیا وہی ”خانہ خدا“ ہے..... پوری دنیا ”خانہ خدا“ ہے..... ہلاکتیں کیوں ختم نہیں ہوتیں بالخصوص ہندوستان میں..... مسٹر ناک۔

(ڈاکٹر ڈاکر)

یہ بہت اچھا سوال ہے..... بہت اچھا سوال ہے..... یہ سوال کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گا۔ اگرچہ آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ بزری خور ہیں لیکن ہم لوگ تند خولوگ نہیں ہیں۔ یہ مجھے یقین ہے..... اس لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا..... میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا..... میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو کسی مسئلے کا باعث بنے۔ میں جانتا ہوں کہ احمد آباد اور گجرات میں گوشت خوری اور بزری خوری کے مسئلے پر فسادات بھی دیکھنے میں آئے تھے..... لیکن یہاں پر جہاں تک میرا تعلق ہے میں منطقی گفتگو کرتا ہوں..... اس لیے یہاں پر کچھ بھی وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ اس بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے..... اس نے کہا ہے کہ اس

نے زائرین کو دیکھا ہے..... اور تین دنوں تک انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا.....  
انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا۔

اس بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ:

”آپ وہاں پر گوشت خوری کیوں نہیں کرتے؟“

یہ ایک غلط اطلاع ہے..... میں نے کئی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی ہے..... جس کسی نے بھی آپ کو بتایا بالکل غلط بتایا کہ ہم گوشت خوری نہیں کرتے۔  
مسئلہ یہ ہے کہ اس مقدس سرزمین پر اس وقت آپ شکار کی خاطر کسی جانور کو ہلاک نہیں کر سکتے..... محض اس وقت..... لیکن گوشت خوری پر پابندی نہیں ہے..... میں وہاں جانے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں..... میں نے گوشت خوری کی تھی کون کہتا ہے کہ آپ گوشت خوری نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حج کے موقع پر ہم ان سلے کپڑے کے دو ٹکڑوں میں مبوس ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کا عظیم ترین اجتماع ہوتا ہے..... لوگ امریکہ سے آتے ہیں..... کینیڈا سے آتے ہیں..... ہندوستان سے آتے ہیں..... پاکستان سے آتے ہیں..... انڈونیشیا سے آتے ہیں..... تمام آن سلے کپڑے کے دو ٹکڑوں میں مبوس ہوتے ہیں..... ایک دوسرے سے عین مشاہدہ رکھتے ہیں..... آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ:

”آپ کے ساتھ کھڑا شخص بادشاہ ہے یا گداگر ہے۔“

عالیٰ بھائی چارے کے لیے..... محض زبانی کلامی نہیں..... عملی مظاہرہ..... عالیٰ بھائی چارے کا عملی مظاہرہ۔ جب ہم صلوٰۃ ادا کرتے ہیں..... ہم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں..... ہم کھانا کھاتے ہیں..... ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں..... حتیٰ کہ ہم گوشت خوری بھی کرتے ہیں..... آپ نے یہ اطلاع کہاں سے پائی؟..... مجھے نہیں معلوم..... کس نے آپ کو یہ اطلاع فراہم کی..... کسی مسلمان نے

آپ کو بتایا یا کسی غیر مسلم نے آپ کو بتایا؟ جس کسی نے بھی آپ کو بتایا بالکل غلط بتایا..... میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کئی مرتبہ حج کے لیے جا چکا ہوں ..... میں عمرہ کے لیے جا چکا ہوں ..... یہ بالکل غلط اطلاع ہے ..... اور عالمی بھائی چارے کے مظاہرے کے لیے ہر کوئی وہاں آتا ہے تاکہ آپ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والوں لوگوں کے ساتھ باہم روابط رکھ سکیں ..... اسلامی بھائی چارہ یہ ہے کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں اور مسلمان آپس میں دینی بھائی ہیں۔

(ڈاکٹر محمد)

بھی بھائی۔

سوال: مسٹر زاویری یہ سوال آپ کے لیے ہے ..... اپنے خطاب کے اختتام میں ..... مسٹر زاویری ..... یہ سوال آپ کے لیے ہے۔

(ڈاکٹر محمد)

ہاں ..... آپ اپنا سوال پیش کریں۔

سوال: مسٹر زاویری توجہ نہیں فرم رہے ..... مسٹر زاویری یہ سوال آپ کے لیے ہے ..... اپنی تقریر کے اختتام پر آپ نے نباتات خور جانوروں اور گوشت خور (درندوں) جانوروں میں فرق نمایاں کرنے کی غرض سے 16 نکات کی فہرست پیش کی تھی۔ میں نے سمجھا کہ سامعین میں سے کوئی بھی اس فرق کو جانے کا مشتاق تھا ..... آپ محض اس نکتے پر زور دینا چاہتے تھے کہ نباتات خور جانوروں کا موازنہ کرتے ہوئے آپ یہ بتانا چاہتے تھے ..... آپ یہ عکاسی کرنا چاہتے تھے کہ ہم انسانوں کو بھی نباتات خور (بزری خور) بنانا چاہیے ..... با الفاظ دیگر ہمیں بھی بزری خور بننا چاہیے ..... میں تو یہی سمجھا ہوں ..... ڈاکٹر ڈاکٹر نے کچھ نکات پر رائے کا اظہار کیا ہے ..... ڈاکٹر ڈاکٹر اور مسٹر زاویری میں علم طب کے میدان کا طالب علم نہیں ہوں بلکہ میں انجینئر گ

کے میدان کا طالب علم ہوں..... میں نے محض دسویں جماعت تک پیالوجی کا مطالعہ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے ادھر ادھر سے اس میدان میں کچھ علم حاصل کیا ہوا ہے۔  
(مسٹر زاویری)

براء مہربانی اپنا سوال پوچھیں۔

سوال: یہ ہیں وہ نکات جن پر میں آپ کا تبصرہ درکار رکھتا ہوں..... آپ نے فرمایا  
تھا کہ:

”نباتات خور جانوروں کے لعاب دہن میں پائیلان (Pytalin) موجود ہوتا ہے اور یہ گوشت خور (درندوں) میں بھی موجود ہوتا ہے اور یہ انسانوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔“

آپ نے کہا تھا کہ:

”نباتات خور جانور کھانے کے دوران اپنے جڑے ہلاتے ہیں..... لیکن میں نے کبھی کسی انسان کو کھانے کے دوران جڑے ہلاتے نہیں دیکھا۔“

(مسٹر زاویری)

لیکھیں یہ آپ کا سوال ہے؟..... اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے کریں..... ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے..... یہ لیکھر کا اجلاس نہیں ہے..... اپنا سوال پیش کریں..... ہم آپ کے تاثرات سننے کے لیے یہاں موجود نہیں ہیں..... آپ مجھ سے براہ راست سوال کریں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا..... اور ضرور آپ کے سوال کا جواب دوں گا..... کیونکہ مسٹر تریویدی اور مجھے..... ہم دونوں کی دیگر مصروفیات بھی ہیں..... ہمیں اس سوال کے بعد یہاں سے رخصت ہونا ہے۔

(ڈاکٹر محمد)

مذدرت چاہتا ہوں ..... آپ اپنا سوال محض تین یا چار جملوں میں پوچھیں ..... محض تین یا چار جملوں پر آپ کا سوال مشتمل ہونا چاہیے۔  
 سوال: آپ کو نباتات خور اور گوشت خور جانوروں میں فرق نمایاں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟  
 (مسٹر زاویری)

یہ ایک فطری بات تھی کہ:

”جب میں نے یہ بیان کیا کہ انسانی جسم کے تقریباً تمام حصے سبزی خور جانوروں سے مشابہت رکھتے ہیں اور ان حصوں کے نام بھی گنوائے ..... یہ روشن دماغ سامعین کے لیے تھا کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں ..... اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو بہت بہتر ..... اور اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو بھی بہت بہتر ..... میں آپ سے یہ کہنے والا کون ہوتا ہوں کہ آپ کو کسی ایک نکتے پر یاد گیر نکات پر ضرور مجھ سے اتفاق کرنا ہو گا؟ ..... ٹھیک ہے۔“

میں نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ ایک سانسی حقیقت تھی جس کی میرے پاس معقول توجیہات موجود ہیں اور اس کا ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے ..... لیکن یہ سامعین کے لیے ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں ..... میرا نکتہ محض یہ تھا کہ:

”فطری طور پر انسان بہت زیادہ بلکہ بہت ہی زیادہ بلکہ سو فیصد

سبزی خور ہے اور کئی ایک حالات کی بنا پر یا کئی ایک دیگر  
وجوہات کی بنا پر وہ ایک گوشت خور بن گیا ہے۔“

دوستواب میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ مجھے یہاں آ کر دلی خوشی  
ہوئی ہے ..... بے انتہا خوشی ہوئی ہے ..... مجھے آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے بھی  
ازحد خوشی ہوئی ہے۔ ہمارے فاضل ڈاکٹر ڈاکٹر کی بدولت اسلام کے بارے میں پائی  
جانے والی کئی ایک غلط فہمیاں بھی دور ہوئی ہیں۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اسلام میں ان  
چیزوں کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے اور اس کے لیے میں اسلامک ریسرچ  
فاؤنڈیشن کا ازحد شکر گزار ہوں ..... اور میں اپنے دوست مسٹر سلیچا کا بھی شکر گزار  
ہوں جن کا تعلق رشیحہ فاؤنڈیشن سے ہے اور چونکہ مسٹر تریویدی اور میرے پاس وقت  
کی قلت ہے ..... کیونکہ ہماری دیگر مصروفیات بھی ہیں جو کہ ہماری منتظر ہیں ..... لہذا  
ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکر یہ۔

(ڈاکٹر محمد)

مسٹر بید ..... مسٹر بید نے ابھی سوال پوچھنا ہے ..... ہاں ..... آپ مسٹر بید  
ہیں ..... ہاں ..... اب ..... میں معدترت چاہتا ہوں ..... مسٹر بید نے خصوصی درخواست  
کی تھی کہ اسے سوال پوچھنے کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد مسٹر تریویدی ..... اس  
طرف سے آخری سوال اور پھر ..... ہاں آخری سوال ..... اس جانب سے ..... میرا  
خیال ہے خواتین تعداد میں کم ہیں۔ لہذا ہم ان دو سوالات کو نامنظور کرتے ہیں جو کہ  
خطا ہو گئے تھے ..... مجھے امید ہے کہ یہ عین انصاف ہو گا مسٹر تریویدی ..... ہاں مسٹر  
بید ..... تب آپ ..... تب ہم اس اجلاس کو برخاست کرتے ہیں ..... ہاں ..... ہندوؤں  
کے لیے مسٹر ہری اوم۔

(ڈاکٹر محمد)

ارے ہاں..... بہت مذہر ت..... اس اجلاس کے برخاست ہونے کے بعد دو افراد کو ڈاکٹر ڈاکٹر کو سننے کا موقع میر آئے گا..... اگر آپ جواب سننا چاہتے ہیں..... اور وہ احباب جو سننا چاہتے ہیں وہ رک سکتے ہیں..... دیگر احباب جا سکتے ہیں..... ہاں مشربید۔

سوال: ہندوؤں کو ہری اوم..... جین مت کو جبے جین اندر..... مسلمان بھائیوں کو  
اسلام علیکم.....  
(ڈاکٹر محمد)

علیکم السلام

سوال: ڈاکٹر ڈاکٹر سے ایک درخواست..... میرے پاس آپ کے تمام تر 20 سوالات کے جوابات موجود ہیں..... اب وہ اجازت نہیں دیں گے کہ میں وہ جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں..... براہ مہربانی مجھے موقع دیں..... جب چاہیں موقع دیں..... میں آپ کو ان تمام سوالات کے منطقی جواب پیش کروں گا..... یہ تھی پہلی بات..... اب دوسری بات یہ ہے کہ تمام مذاہب خدا کی پیروی کرتے ہیں..... اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے بنائے گئے قوانین کی بھی پیروی کرنی چاہیے..... خدا نے ہمیں کیا قوانین دیے ہیں..... خدا نے ہمارے لیے کیا قوانین وضع کیے ہیں.....

”اک سیدھی بات ہے..... کہ جب بھگوان نے ہمیں جنم دیا ہے تو انہوں نے ہمارے لیے کچھ بندوبست بھی کیا ہوگا۔“

(ڈاکٹر محمد)

جناب..... جناب..... سوال..... دیکھیں۔

سوال: میں یکچھ نہیں دے رہا..... میں.....

(ڈاکٹر محمد)

میں وہی قانون لاگو کروں گا جو میں نے پہلے مقرر پر لاگو کیا تھا..... اپنا سوال پانچ جملوں میں بیان کریں..... فرض کر لیں کہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر اور مسٹر زاویری پس منظر سے آگاہ ہیں..... اپنا سوال کیجئے..... پانچ یا چھ جملوں میں..... مہربانی (سوال جاری ہے)

میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ:

”بھگوان نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے..... انہوں نے کچھ تو انہیں بھی بنائے ہوں گے۔ جیسے کہ ہمارے لیے سب سے ضروری بات ”ہوا“ ہے..... اس کے بعد پانی ہے..... آپ جہاں بھی جائیں پانی دستیاب ہے۔“

دوسری چیز ہماری خوراک ہے۔ ہمارے کھانے کے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے..... اس نے ہمیں وافر مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء دی ہیں جو مختلف اقسام کی حامل ہیں.....

(ڈاکٹر محمد)

جناب..... آپ کا سوال کیا ہے؟

(ڈاکٹر ڈاکٹر)

بہت خوب..... بہت خوب..... بہت

(سوال جاری ہے)

ڈاکٹر ڈاکٹر میرا سوال سمجھ چکے ہیں۔

(ڈاکٹر ڈاکٹر)

میں ان کا سوال سمجھ چکا ہوں..... بہت لمبا سوال ہے لیکن اچھا سوال

ہے..... دیکھیں میں اس میدان سے نسلک ہوں ..... میں سوال کو سمجھ سکتا ہوں ..... سوال کے پہلے حصے کے مطابق کہ:

”آپ تمام تر 20 نکات کا جواب دے سکتے ہیں۔“

اس میدان میں میرے کئی ایک طالب علم موجود ہیں ..... اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے کسی طالب کو یہ فرض سونپ دوں گا کہ وہ آئی آرائیف میں آپ کے ساتھ بات چیت کرے ..... کسی بھی وقت ..... کون سے دن؟ ..... اگلی اتوار ..... اگلی اتوار ..... میرا طالب علم ..... اگلی اتوار۔

(سوال جاری ہے)

”میں ..... میں کسی کو بھی جواب پیش کر سکتا ہوں۔“

(ڈاکٹر ڈاکر)

”اگلی اتوار۔“

(سوال جاری ہے)

”کوئی بھی دن۔“

(ڈاکٹر ڈاکر)

”اگلی اتوار۔“

(سوال جاری ہے)

”کسی کے ساتھ بھی۔“

(ڈاکٹر ڈاکر)

”ٹھیک ہے ..... پروگرام طے پا گیا ہے ..... اگلی اتوار آپ

”مدعو ہیں۔“

(ڈاکٹر ذاکر)

”بھائی..... آپ کا نام کیا ہے؟..... بھائی آپ کا نام؟“

(سوال جاری ہے)

”سب کچھ بتا دوں گا۔“

(ڈاکٹر ذاکر)

”مسٹر بید 10:30 بجے آئی آر ایف آئیس گے ..... ٹھیک

ہے ..... 30 بجے صح بروز اتوار ..... یہی طریقہ کار ہو گا جو

یہاں پر اپنایا گیا ہے ..... اور میرا طالب علم مباحثہ سرانجام دے

گا ..... کوئی بھی طالب علم ..... اسی موضوع پر۔“

(تالیاں)

(ڈاکٹر ذاکر)

ان کا سوال یہ ہے کہ:

”خدا نے ہوا، پانی، روشنی سب کچھ عطا فرمایا ہے ..... یہ سب

کچھ بہ آسانی دستیاب ہے ..... لہذا ہم ان اشیاء کا کیوں تردود

کریں جو بہ آسانی دستیاب نہیں ہیں اور مہنگی ہیں؟“

بہت اچھا سوال ہے۔ یہ کہ:

”آپ کو مسٹر زاویری کو باور کروانا چاہیے تھا وہ بتا رہے ہیں کہ

بزریاں برآمد کی جانی چاہیں ..... بزریاں ان علاقوں میں برآمد

کی جانی چاہیں جو صحراؤں پر مشتمل ہیں ..... انھیں بتاؤ ..... میں

نے انھیں یہ نہیں بتایا ..... میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ..... اگر

بزریاں دستیاب ہیں ..... بزریاں استعمال کریں ..... اگر جانور

دستیاب ہیں..... حلال جانور کھانے کے لیے استعمال کریں.....  
ہمیں مہنگی اشیاء نہیں کھانی چاہیے۔“

آپ کو یہ سوال مسٹرز اوری سے کرنا چاہیے تھا..... مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔

مکتبہ نمبر 1:

”آپ کو آسانی سے خوراک دستیاب ہے..... اور اگر یہ حلال  
خوراک ہے..... تو ہمیں مہنگی خوراک استعمال نہیں کرنی چاہیے۔“

آپ نے مجھے بتایا..... یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے میں کسی امیر آدمی سے  
یہ کہہ رہا ہوں کہ:

”آپ نریمان پوائنٹ کیوں رہ رہے ہیں؟..... آپ جانتے  
ہیں کہ وہاں ہر ایک مریع فٹ جگہ کی قیمت 25,000 روپے<sup>1</sup>  
ہے..... میرا روز رہائش اختیار کریں..... جہاں پر محض 1000  
روپے فی مریع فٹ پر جگہ دستیاب ہے۔“

جب ایک امیر آدمی رقم خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے..... ایک اچھا  
فیٹ خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے..... آپ ایک امیر آدمی کو اچھی غذا..... اچھی  
خوراک خریدنے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ اور گوشت پر مشتمل خوراک.....  
پروٹین..... فولاد کے علاوہ کئی ایک لحاظ سے..... طبی نکتہ نگاہ سے..... یہ انتہائی بہتر  
ہے..... یہ اوپنے معیار کی حامل ہے..... لہذا اگر ایک امیر آدمی اس کی استطاعت رکھتا  
ہے..... آپ اسے کیوں روک رہے ہیں؟ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو آپ  
بزریاں کھا سکتے ہیں..... میں آپ کو نہیں روک رہا۔  
میرا خیال ہے اس سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔

(تالیاں)

(ڈاکٹر محمد)

آپ کے جذبے کا شکریہ..... ہم اس سوال کی اجازت نہیں دیں گے.....  
 مسٹر اوری کا بھی یہی خیال ہے..... وہ تحکم چکے ہیں اور ہم ان کے خیالات کی قدر  
 کرتے ہیں..... وہ رخصت چاہتے ہیں..... لہذا ہم اس سوال کی اجازت نہیں دیں  
 گے..... لیکن ہم دو افراد کو اجازت دیں گے جنہوں نے سوال پوچھنے تھے کیونکہ میں  
 نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے..... جی ہاں..... مسٹر ڈھن راج سلچا آپ کا شکریہ ادا  
 کریں گے..... اس کے بعد وہ لوگ جو رخصت ہوتا چاہیں بخوبی رخصت ہو سکتے  
 ہیں..... اور وہ لوگ جوان دو سوالات اور ان کے جواب سننے کے متمنی ہیں وہ بخوبی  
 تشریف فرمائے سکتے ہیں۔

(ڈاکٹر محمد)

ہیلو..... ہم اجازت..... نہیں ہم..... اچھا..... اس کے بعد..... ان دو افراد  
 کے بعد..... اور ایک سوال خواتین کی جانب سے..... اور مزید..... اچھا..... ایک.....  
 دو..... تین..... چار..... چار سوالات..... معاف رکھیں..... مسٹر تریویدی کہہ رہے ہیں  
 کہ مجھے کچھ سخت رویہ اپنا ناچاہیے..... اب بات یہ ہے کہ میں نے ازراہ ہمدردی  
 میں نے دو افراد کو سوال پوچھنے کا موقع فراہم کیا تھا اور اب ہر کوئی سوال پوچھنے کا  
 مطالبہ کر رہا ہے..... اب ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ..... پہلے شکریہ ادا کرنے کی  
 تقریب ہوگی..... اس کے بعد چار سوالات پوچھنے کی اجازت ہوگی..... اس کے بعد  
 تقریب کا اختتام ہوگا..... یہ اب حتیٰ فیصلہ ہے..... جی ہاں..... اب میں مسٹر ڈھن  
 راج سے درخواست کروں گا کہ شکریہ ادا کرنے کی تقریب کے لیے تشریف لائیں۔

(ڈھن راج سلچا)

مہمان خصوصی والی۔ پی۔ تریویدی۔..... فاضل مقررین۔..... معزز مہماناں

گرامی..... بھائیو اور بہنو..... یہ میرا ایک خوشگوار فریضہ ہے کہ میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کروں ..... میں شری وی۔ پی۔ تریویڈی کا ازحد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس تقریب کے مہمان خصوصی کے فرائض سرانجام دیے..... میں دونوں مقرر حضرات کا بھی تہہ دل سے شکرگزار ہوں کہ انہوں نے انہائی دلچسپ اور معلوماتی گفتگو کی اور سب سے بڑھ کر میں ان تمام احباب کا شکرگزار ہوں جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کرتے ہوئے اس تقریب کی رونق کو دو بالا کیا..... شکریہ۔

(ڈاکٹر محمد)

اب ہم ان چار سوالات کی وساطت سے اپنا پروگرام جاری رکھیں گے..... مہمان خصوصی مسٹر تریویڈی اور مسٹر زاویری کو رخصت کی اجازت ہے..... وہ احباب جو ان سوالات اور ان کے جوابات سننے کے متنی ہیں وہ بے شک تشریف فرمائیں..... ہم محض ایک منٹ بعد کارروائی شروع کر دیں گے..... جوئی مہمان خصوصی اور معزز مقرر مسٹر زاویری رخصت ہوں گے ہم دوبارہ کارروائی کا آغاز کر دیں گے..... رسمی پروگرام ختم ہو چکا ہے..... اب ہم چار سوالات اور ان کے جوابات کا غیر رسمی پروگرام جاری رکھیں گے۔

خواتین و حضرات توجہ فرمائیں..... اب ہم اپنا اضافی پروگرام شروع کر

رہے ہیں.....

ہاں بھائی۔

سوال: میرا سوال یہ ہے کہ:

”کیا گوشت پر مشتمل غذا میں غذائیت کے لحاظ سے کم غذائیت کی حامل ہوتی ہیں؟“

(ڈاکٹر ذاکر)

اس بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ:

”کیا گوشت پر مشتمل غذا میں کم غذائیت کی حامل ہیں؟“

میرا جواب یہی ہو گا کہ:

”جی ہاں..... یہ کم غذائیت کی حامل ہوتی ہیں۔“

اگر میں ”نہ“ میں جواب دوں تو یہ غلط ہو گا..... کیونکہ میں ایک متعصب گوشت خور نہیں ہوں۔

جی ہاں..... اس میں کاربوبائیڈ رہیت اور وٹامن ”سی“ کی کمی ہوتی ہے.....

لیکن یہ دونوں چیزیں بزریوں میں بہ آسانی دستیاب ہیں۔ گوشت خور افراد بزری خوری بھی کرتے ہیں اور پھل فroot سے بھی لطف انداز ہوتے ہیں..... وہ وٹامن ”سی“ کی زیادتی کی حامل ہوتی ہیں..... آپ پھل کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اعتدال پسند موازنہ کریں..... غذائیت کے اعتبار سے..... اگر آپ تجزیہ کریں..... گوشت خوری..... جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے..... گوشت پر مشتمل غذا میں..... ان میں بہترین پروٹین پائی جاتی ہے اور کمل پروٹین لازمی رونگی ایسڈ کی حامل ہوتی ہے..... حتیٰ کہ فولاد بھی پایا جاتا ہے..... اور ایک بہتر غذا ”انڈا“ ہے اور اس کے خلاف معزز مقرر نے کافی بات چیت کی ہے..... ایک انڈے میں تقریباً چھ گرام پروٹین ہوتی ہے..... ایک بڑے انڈے میں..... اس میں سے آدمی انڈے کی سفیدی میں ہوتی ہے اور انڈے کی سفیدی ایک مثالی پروٹین کی حامل ہوتی ہے..... مثالی پروٹین کا مطلب یہ ہے کہ اسکی پروٹین جس کے ذریعے دیگر پروٹینوں کی جانچ ہوتی ہے۔ اس میں تمام تر لازمی امینو ایسڈ مناسب مقدار میں موجود ہوتے ہیں..... انڈے میں فولاد، فلورین، وٹامن B<sub>12</sub>..... وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی پایا جاتا ہے۔ انڈا

ان چند ایک غذاوں میں سے ایک ہے جن میں وٹاکن ڈی پایا جاتا ہے۔ اثٹے ان افراد کے لیے مفید ہیں جو حالت بیماری میں ہوں ..... جو بیماری سے صحت یابی کی طرف لوٹ رہے ہوں ..... آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بہ آسانی ہضم ہو جاتا ہے ..... یہ تمام تر غذائی خصوصیات کا حامل ہے۔ اثٹے میں تمام غذا ایت مناسب اور صحیح مقدار میں پائی جاتی ہے ..... کسی بھی مخصوص عناصر کی کمی بیش نہیں ہوتی اور اس میں کلورینز کی مقدار بھی کم ہوتی ہے ..... اس میں محض 70 کلورینز ہوتی ہیں ..... ایک بڑے اثٹے میں ..... لیکن کئی ایک غذا میں ایسی بھی ہیں جو ایسے لازمی امینو ایسڈ کی حامل ہوتی ہیں جو سبزی پر مشتمل غذا میں نہیں پائے جاتے۔ سبزی پر مشتمل غذاوں میں ..... ہمیں کیا کرنا ہوگا ..... اگر ہم مکمل غذا ایت کا حصول چاہتے ہوں ..... ایک شخص سبزی خور بھی رہ سکتا ہے اور تمام تر غذا ایت کے حصول کو بھی ممکن بنा سکتا ہے ..... کیسے؟ ..... مخصوص غذا کا انتخاب کرتے ہوئے ..... ان سبزیوں کا انتخاب کرتے ہوئے جن کو وہ استعمال میں لا رہا ہے ..... اگر اس سبزی میں ایک امینو ایسڈ کی کمی پائی جاتی ہے ..... تب دوسری سبزی استعمال کی جائے جس میں اس امینو ایسڈ کی موجودگی پائی جاتی ہو۔ لہذا اگر آپ ایک اعتدال پسند انتخاب کرتے ہیں اور اس انتخاب پر قائم رہتے ہیں تب آپ صحت مند رہ سکتے ہیں ..... سبزی خوری کے دوران ..... اگر کسی بھی گوشت پر مشتمل غذا کا استعمال کر لیا جائے تب آپ عام طور پر آپ غذا ایت کی کمی کا شکار نہیں رہیں گے۔

میرا خیال ہے اس سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔

(ڈاکٹر محمد)

ہاں بھائی۔

سوال: میرا نام بابو بھائی زاویری ہے۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ..... ڈاکٹر ڈاکٹر ناٹک نے اپنے

خطاب میں فرمایا ہے..... انھوں نے ڈاکٹر ڈین آرنش کی بجائے دیگر ماہرین کے حوالے پیش کیے ہیں۔ ڈاکٹر ڈین آرنش تحقیق کے میدان کا بانی ہے..... دل کے اعراض پر قابو پانے کی تحقیق کے میدان کا..... اس میدان میں وہ اب ایک سند کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میدان میں ان کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے صدر امریکہ نے اسے اپنا طبی مشیر مقرر کیا ہے..... تاکہ وہ امریکنوں کو صحت کے معاملے میں رہنمائی مہیا کر سکے۔ ڈاکٹر آرنش کی تحقیقات کے بعد یہ امر مند طبی کتب میں شامل کیا جا چکا ہے کہ بذریعہ غذا دل کے عوارض پر قابو پانا ممکن ہوتا ہے..... اس غذا کے ذریعے جس کا پرچار ڈاکٹر آرنش کرتا ہے..... اور یہ مخصوص غذا زیادہ تر بزریوں پر مشتمل ہے۔ اب میں ڈاکٹر ڈاکر سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا..... کہ جب انھوں نے تبادل ماہرین کا حوالہ پیش کیا ہے..... وہ ڈاکٹر ڈین آرنش کی تحقیق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جنھوں نے دل کے عوارض میں بتلا ہزاروں مریضوں کا علاج کیا ہے..... اور سرجری کے بغیر یہ علاج سرانجام دیا ہے؟

(ڈاکٹر ڈاکر)

اس بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے..... بہت متعلقہ سوال کیا ہے.....  
بامقصود سوال کیا ہے کہ:

”ڈاکٹر ڈین آرنش کے بارے میں میری کیا رائے ہے جو کہ

ایک معروف ڈاکٹر ہے۔“

اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ:

”غذا کے ذریعہ دل کے عوارض پر قابو پانا ممکن ہے اور وہ غذا

محض بزریوں پر مشتمل ہے۔“

میں اس امر سے اتفاق کرتا ہوں..... لیکن کیا یہ امر یہ ثابت کرتا ہے کہ:

”گوشت خوری منوع ہے؟“

بھائی کیا آپ ذیابیٹس کے مرض کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر ذیابیٹس کے مرض کا گوشت خوری پر مشتمل علاج نہ کیا جائے..... انسولین سے علاج..... تو وہ مریض موت سے ہمکnar ہو جائے گا۔ لہذا اگر گوشت خوری پر مشتمل غذا ذیابیٹس کے مرض کے لیے شفایاب ثابت ہو سکتی ہے..... تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ غذا منوع نہیں ہے۔

میں ڈاکٹر آرنس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں..... دل کے عوارض سے بچنے کے لیے یادل کے عوارض کے علاج معالجے کے لیے..... سبزی خوری مفید ہے..... سبزی خوری کی بنا پر دل کے عوارض سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے اور دل کے عوارض کے علاج میں بھی یہ امر ضروری ہے..... میں اس امر سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن مسٹر رائی بھائی زاویری نے کہا تھا کہ ڈاکٹر آرنس نے کہا ہے کہ:

”گوشت خوری منوع ہونی چاہیے۔“

دل کے عوارض میں بیتل امریضوں کے لیے ایک عام اصول کے تحت..... میں اس امر سے اتفاق کرتا ہوں..... لوگ اختلاف کر سکتے ہیں..... بہت سے ڈاکٹر اختلاف کر سکتے ہیں..... لیکن میں اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن یہ کہنا کہ:

”کیونکہ سبزی خوری دل کے عوارض کے لیے شفایاب ہے لہذا

گوشت پر مشتمل غذاوں کو منوع قرار دے دیا جائے۔“

کس طور پر ہمیں درست نہیں..... اگر ہمیں ہیں ہے تو اس کی وجہ گوشت پر مشتمل غذاوں پر کیوں پابندی عائد نہیں کر رہا؟..... امریکی حکومت کا مشیر..... امریکی حکومت اپنے مشیر ڈاکٹر آرنس کی ہدایت پر کیوں عمل نہیں کرتی اور گوشت پر مشتمل غذاوں پر کیوں پابندی عائد نہیں کرتی..... کیوں؟ اس کی تحقیق جو کچھ بھی ہے..... اگر وہ ایک

سند کا درجہ رکھتا ہے..... وہ درست ہے..... لیکن اس کے اس سند کے درجے کا حوالہ دیتے ہوئے اور مابعد یہ کہا جائے کہ:

”اس نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے۔“

بات مشکوک ہو جاتی ہے۔ مجھے شک گزرتا ہے کہ کیا حقیقت میں ڈاکٹر آرش نے پابندی عائد کی ہے..... مجھے شک گزرتا ہے..... مجھے بہت سے شکوک ہیں..... مجھے وہ بیان دکھائیں جس میں اس نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔

”کیا کسی بھی انسان نے زندگی میں کبھی گوشت خوری نہیں کی؟“

میں چیلنج کرتا ہوں..... میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں..... وہ ”دل کے مریضوں“ کا ذکر کر سکتا ہے..... دیگر ماہرین بھی موجود ہیں..... میں نے ڈاکٹر ولیم۔ ٹی۔ جاروس۔ ڈاکٹر کے جیری۔۔۔ کا حوالہ دیا تھا۔۔۔ اور بھی بہت حوالے ہیں۔۔۔ میں اس کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ امر دل کے عوارض کے علاج کے لیے معافون ثابت ہوتا ہے۔۔۔ یعنی سبزی خوری کا امر۔۔۔ لیکن یہ ایک عام قانون اور اصول نہیں ہے۔۔۔

میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔

(ڈاکٹر محمد)

بھی ہاں بہن۔

سوال: یہ سوال اس بارے میں ہے۔۔۔ چونکہ ڈاکٹر ڈاکٹر بذات خود ایک سائنس دان ہیں اور ایک ڈاکٹر بھی ہیں۔۔۔ لہذا میں چاہوں گی کہ وہ مجھے روشناس کروائیں۔۔۔ 15 سالہ کلینک کے تجربے۔۔۔

(ڈاکٹر محمد)

میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا۔۔۔ کیا آپ سوال دہرانا پسند کریں گی؟

(سوال جاری ہے)

میری لینڈ..... امریکہ میں..... 15 سال پر بنیاد کرتا ہوا تجربہ ..... پیش کیسٹر  
ریسرچ انسٹیوٹ کا..... سرخ گوشت کی بابت..... سرخ گوشت کیسٹر کا باعث بنتا ہے اور  
وہ تمام چیزیں ..... یہ ..... کیا ڈاکٹر ڈاکٹر کے ممکن ہے کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں ..... شکر یہ  
(ڈاکٹر ڈاکٹر)

یہ ایک بہت اچھا سوال ہے..... اس بہن نے کہا ہے کہ:  
”کسی کیسٹر ہسپتال میں پندرہ سالہ تحقیق کے بعد“  
 واضح رہے کہ ”تحقیق“ مگر ”حقائق“ نہیں ..... ”تحقیق“ اور ”حقائق“ میں  
فرق ہے..... لیکن میں تحقیق سے بھی اتفاق کرتا ہوں ..... میں نے اس تحقیق کا مطالعہ  
کیا تھا ..... یہ تحقیق کیسٹر ہسپتال کی ہو یا کسی اور ہسپتال کی ہو جس کا حوالہ یہ بہن دے  
رہی ہے ..... میں نے کئی ایک ”تحقیقات“ کا مطالعہ کر رکھا ہے کہ یہ کولون (Colon)  
کے کیسٹر کا باعث بن سکتا ہے۔ گوشت پر مشتمل غذاوں کا زیادہ استعمال ”کینس آف  
کولون“ کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ کی غذاریشے دار غذا پر مشتمل نہ ہو تو  
آگر آپ کی غذاریشے دار غذا پر مشتمل ہے تو اگرچہ آپ گوشت پر مشتمل غذا میں  
زیادہ بھی استعمال کریں تو آپ کیسٹر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ گوشت پر مشتمل  
غذا میں زیادہ استعمال کریں اور ریشے دار غذاوں کے استعمال کی طرف توجہ نہ دیں تو  
آپ کا یہ عمل درآمد آپ کے لیے کسی نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آپ جانتے  
ہیں کہ بزری پر مشتمل غذا میں ..... جو آپ کھاتے ہیں ..... یہ ہضم نہیں ہو پاتیں کیونکہ  
سیلووز (Cellulose) (وہ شے جس سے پودوں کے ٹھوس حصے بنتے ہیں) ہضم نہیں  
ہو سکتی ..... یہ ریشے کی شکل میں موجود رہتی ہے۔ گوشت پر مشتمل غذاوں کا بکثرت  
استعمال اور ریشے دار غذاوں کے استعمال سے پرہیز ..... ”کینس آف کولون“ کا باعث

بن سکتا ہے..... لیکن اگر آپ اعتدال برقرار رکھیں گے تو سرخ گوشت استعمال کرنے والا ہر شخص کینسر کا شکار نہیں ہو سکتا..... بسیار خوری ..... زیادہ کھانا..... قرآن پاک اس کے نقصان کی نشاندہی فرماتا ہے۔ لہذا کھانے میں زیادتی کرنے والے قرآن پاک کے فرمان کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ:

”گوشت پر مشتمل غذاؤں کا بے تحاشہ استعمال منوع ہونا چاہیے۔“

میرا خیال ہے اس سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔

کیا قرآن پاک کام آئی

(اسلام یک تھافت)

قرآن پاک اور جزئیہ سائنس

(ایک دعمرت سے مطابقت یا عدم مطابقت)

سید احمد فرازی  
سید احمد فرازی

سید احمد فرازی  
سید احمد فرازی

اندازیں توہین کے حقوق

(بینیہ جیسا کے عالی فرقہ مودودی)

خدا کا تصویر  
ذرا بہب عالم میں

سید احمد فرازی  
سید احمد فرازی

سید احمد فرازی  
سید احمد فرازی

ذرا بہب کسی

الکریم مارکیٹ اردو پاپر اس لادھوڑ

